

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

# تحفہ تراویح

مؤلف

(مولانا) عبدالرحیم صاحب فلاحی

استاذ تفسیر و حدیث جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوا

ناشر

جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوا ضلع نندور بار (مہاراشٹر)

# جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب	:-	<b>تحفۃ تراویح</b>
مؤلف	:-	مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحتی
کمپیوٹنگ	:-	امانت کمپیوٹر، جامعہ منہاج العلوم رنجی ضلع جالندہ (9421420885)
سال اشاعت	:-	جولائی ۱۹۹۹ء (۳۰۰۰)
بارہواں ایڈیشن	:-	جولائی ۲۰۰۹ء (۲۰۰۰)
طباعت	:-	امانت کمپیوٹر، جامعہ منہاج العلوم رنجی ضلع جالندہ (9421420885)
قیمت	:-	۳۰ روپے

## ناشر

### جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوا

#### ملنے کے پتے

مکتبۃ السلام جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوا، مہاراشٹر

مکتبۃ السعادة جامعہ مظہر سعادت ہانسوٹ، گجرات، الھند

مکتبۃ سبیل السلام مدرسہ عمر ابن خطاب، کنج کھیڑا، مہاراشٹر

مکتبۃ دار السلام جامعہ ابو ہریرہ، بدناپور، ضلع جالندہ مہاراشٹر

امانت کمپیوٹر، جامعہ منہاج العلوم رنجی ضلع جالندہ (9421420885)

فرید بک ڈپو، پرائیویٹ لمیٹڈ دہلی-۶

دارالکتب دیوبند (یو پی)

کتب خانہ نعیمیہ دیوبند (یو پی)

## ان اوراق میں کیا اور کہاں ہے

صفحہ	بیان	مضامین	شمار
۴	منسوب الیہ کی وضاحت	انتساب	۱
۵	خیالات مؤلف	عرض مؤلف	۲
۸	حضرت مولانا سلیمان صاحبؒ کی عرض گذاشت	مقدمہ	۳
۱۲	حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی	تقریظ	۴
۱۴	تقریظ دل پذیر صاحب (مفتی عبداللہ المظاہری)	کتاب ہدایت کے انمول موتی	۵
۱۶	قاری ابوالحسن صاحب اعظمی (دارالعلوم دیوبند)	رائے گرامی	۶
۱۸	حضرت مولانا غلام محمد صاحب و ستانوی صاحب اکل کوا	رائے عالی	۷
۲۰	حضرت مولانا محمد زبیر صاحب اعظمی	تحفہ تراویح ایک انمول تحفہ	۸
۲۳	حضرت مولانا محمد ایوب صاحب سورتی	کلمات دعائیہ	۹
۲۸		پہلی تراویح	۱۰
۳۰		دوسری تراویح	۱۱
۳۲		تیسری تراویح	۱۲
۳۴		چوتھی تراویح	۱۳
۳۶		پانچویں تراویح	۱۴
۳۸		چھٹی تراویح	۱۵
۴۰		ساتویں تراویح	۱۶
۴۳		آٹھویں تراویح	۱۷

۴۷		نویں تراوتخ	۱۸
۴۹		دسویں تراوتخ	۱۹
۵۳		گیارہویں تراوتخ	۲۰
۵۶		بارہویں تراوتخ	۲۱
۵۹		تیرہویں تراوتخ	۲۲
۶۱		چودھویں تراوتخ	۲۳
۶۵		پندرہویں تراوتخ	۲۴
۶۸		سولہویں تراوتخ	۲۵
۷۲		سترہویں تراوتخ	۲۶
۷۵		اٹھارہویں تراوتخ	۲۷
۷۷		انیسویں تراوتخ	۲۸
۷۹		بیسویں تراوتخ	۲۹
۸۱		اکیسویں تراوتخ	۳۰
۸۳		بائیسویں تراوتخ	۳۱
۸۵		تیسویں تراوتخ	۳۲
۸۸		چوہیسویں تراوتخ	۳۳
۹۱		پچیسویں تراوتخ	۳۴
۹۴		چھبیسویں تراوتخ	۳۵
۹۷		ستائیسویں تراوتخ	۳۶

۹۹	سات منزلوں کی ترتیب	منازل قرآن	۳۷
۹۹	حرکات کی تعداد	اعراب	۳۸
۱۰۰	قرآن میں استعمال شدہ حروف تہجی کی تعداد	حروف ہجا	۳۹
۱۰۲		تحفہ تراویح اساطین امت کی نظر میں	۴۰

## ﴿انتساب﴾

ان تمام حفاظ عظام اور ائمہ تراویح کے نام جو اپنی ہی نہیں ساری امت کی زندگی کو اسی سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں جسے رسالت مآب ﷺ لیکر مبعوث ہوئے اور یہی نسخہ شفاء، خضر طریق مکمل دستور حیات بلکہ قوموں کا عروج اسی کی اتباع میں پنہاں ہے۔ جس کے متعلق ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب أقواما ویضع بها آخرین۔ رواہ مسلم

باسمہ تعالیٰ

## عرض مؤلف

یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن مقدس کو دیگر کتب سماویہ کی بہ نسبت ایک خاص امتیاز و خصوصیت یہ حاصل رہی ہے کہ اللہ نے اس کے نزول کے ساتھ ساتھ اس کی محافظت کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لے لی ہے، ارشادِ باری ہے ”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ“ ہم نے ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

اہل کتاب کے خواص و عوام سب تحریف کتاب کے مرتکب ہوئے اور عذاب الہی کے مستحق بنتے رہے، لیکن اس نیلے آسمان کے نیچے اور فرشِ خاکی پر اگر کوئی کتاب جو اپنے اصلی خدو خال اور اسی آن و بان اور شان سے ہے جو نزول کتاب کے وقت تھی تو وہ صرف قرآن مجید ہی ہے

پارے بھی بے کم و کاست، رکوع میں بھی کوئی پھیر و بدل نہیں، نقطوں اور شوشوں میں بھی کوئی تغیر و تبدل نہیں لیکن ہاں یہ بات ہے کہ جوں جوں ہم خیر القرون سے اور عہد نزول قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہم مضامین قرآنیہ کے تذکیری، موعظتی پیغام سے نا آشنا اور نابلد ہوتے جا رہے ہیں، علامہ اقبال نے ہماری زبوں حالی کی صحیح عکاسی کی ہے!

کچھ بھی پیغامِ محمد کا تمہیں پاس نہیں	قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں	کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

ہر شخص دعویٰ وفا کے ساتھ ساتھ روحانیت سے کٹ کر مادیت کی مشغول ترین زندگی میں ایسا مستغرق ہوتا جا رہا ہے کہ طوطے کی طرح کبھی کبھار تلاوت کی توفیق ہو جاتی ہے اسی پر قناعت کرتا ہے، حالانکہ جہاں قرآن کی تلاوت مطلوب ہے، وہاں قرآن کے مطالبات سے واقفیت بھی اتنی ہی ضروری ہے۔

عام مسلمان سمجھتے ہیں کہ تراجم قرآنیہ مدارس کے طلباء یا پڑھے لکھے طبقہ کیلئے ہیں

اور تفاسیر قرآنیہ علماء و مفسرین کیلئے، حالانکہ قرآن تو ہدیٰ للناس ہے، اس لئے سارے لوگوں کیلئے اس کے ضروری مضامین سے واقف ہونا لابدی ہے، اسی ضرورت کے پیش نظر ہمارے مشغول و مصروف اور کم فرصت افراد کے کانوں میں صدائے نورانی اور ندائے قرآنی گونجنے لگے اور ہم سب کیلئے قرآن سے استفادہ آسان ہو جائے، یہ مختصر رسالہ ترتیب دیا گیا ہے جس میں سو پارہ کی ترتیب سے کل ۲۷ تراویح میں پورے قرآن مجید کا خلاصہ پیش کیا گیا۔

اس سلسلہ کا داعیہ سب سے پہلے اس وقت پیدا ہوا جبکہ مادر علمی فلاح دارین میں جلالین ثانی کے درس کے دوران حضرت الاستاذ ناظم تعلیمات مولانا سید ذوالفقار احمد صاحب مدظلہ نے فرمایا کہ ایک کتاب پاکستان میں ایسی لکھی گئی ہے کہ جسمیں ہر ترویجہ میں ماقبل کی تلاوت شدہ چار رکعات کا خلاصہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اس قسم کا سلسلہ حفاظ کو شروع کرنا چاہیے، بڑوں اور بزرگوں کی باتیں کب رنگ لاتی ہیں کچھ کہا نہیں جاسکتا۔

بہر حال طالب علمی کا زمانہ غفلت و نادانی کا ہوتا ہے، بات آئی گئی، اس دوران رفیق محترم مولانا داؤد صاحب حال مقیم افریقہ پاکستان سے ”مختصرات تراویح“ کے نام ایک کتاب لائے اور رقم الحروف کو دی لیکن بہت جلد اس کو کسی کرم فرما کی نظر لگ گئی اور اس سے متوقع استفادہ نہ ہو سکا اسی دوران استاذ الاساتذہ حضرت مفتی عبداللہ صاحب مظاہری مدظلہ بانی جامعہ مظہر سعادت ہانسوٹ کے حکم سے صوبہ گجرات انکلیشور اسٹیشن کی مسجد میں اور جامع مسجد ہانسوٹ گجرات میں محراب سنانے کا موقع ملا تو وہاں کے باذوق افراد کے مطالبہ پر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی مصروفیت رہا کرتی تھی، منجملہ اس کے تراویح اور وتر کے مابین خلاصہ تراویح سنانے کا بھی التزام کیا گیا، نیز رئیس جامعہ اشاعۃ العلوم اکل کوا کے حکم سے عنبر ضلع جالندہ مہاراشٹر مسجد شمشیر میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا، اور اس جگہ کے لوگوں نے اسے مفید اور کارآمد قرار دیا، ہر دو بزرگوں نے اس کی افادیت کے پیش نظر اسے مرحلہ طباعت میں لانے کا اصرار کے ساتھ حکم فرمایا۔

چنانچہ ان حضرات کی توجہات کے پیش نظر اس سلسلہ کی ترتیب جدید شروع کی

گئی تو کافی وقت لگا، شدت کے ساتھ اس کی طباعت کا مطالبہ کیا جانے لگا، تو ایک طرف ترتیب دی جاتی رہی تو دوسری طرف اس پر نظر ثانی بھی کروائی گئی۔

بڑی ناسپاسی ہوگی اگر اس موقع پر شکریہ ادا نہ کیا جائے شمس العلماء حضرت مولانا سلیمان ستمشی<sup>ؒ</sup> دامت برکاتہم کا جو کہ اپنی پیرانہ سالی، ضعف و کمزوری کے باوجود اس کے مسودہ کا معتد بہ حصہ بالاستیعاب ملاحظہ فرماتے رہے، اور اصلاح فرمائی۔ نیز حضرت مولانا رضوان الدین معرونی شیخ الحدیث جامعہ ہذا کا جنہوں نے اس کا بڑے اہتمام سے مطالعہ فرما کر اصلاح فرمائی۔ اسی طرح مشہور ادیب زمانہ مولانا زبیر صاحب اعظمی، قاری ابوالحسن صاحب اعظمی، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا بھی شکر گزار ہوں کہ نہایت وسعت ظرفی اور خورد نوازی، و افراد سازی کے جذبہ سے اس طفل تصنیف کی حوصلہ افزائی میں کوئی کمی نہ کی اور اپنی پر خلوص و پراثر دعاؤں کے تمنغوں سے نوازا۔ اسی طرح فراموش نہیں کر سکتا عزیزم جمال الدین راجستھانی، انجی محمد راجستھانی، اور محمد شوکت فتح پوری کو جنہوں نے راقم الحروف کی شکستہ تحریر میں مکتوب مسودہ کی تہیض کرنے کی کامیاب کوشش کی۔

نیز عزیزم مولانا مستقیم بھاگلپوری استاذ جامعہ منہاج العلوم رنجینی ناقابل فراموش ہیں جنہوں نے صرف دو رات کی قلیل مدت میں پروف ریڈنگ کا مشکل ترین کام انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حوصلہ افزائی کرنے والے مشائخ کرام اور دیگر معاونین کو اپنی شایان شان بدلہ نصیب فرمائے۔ مکرر سہ کر ربانی اشاعت العلوم نیز بانی جامعہ مظہر سعادت اور میرے ان تمام اساتذہ ذی مرتبت کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے صرف اس کتاب کی حد تک ہی نہیں بلکہ اس ذرہ بے مقدار کو بنانے کیلئے ہر موڑ اور ہر میدان میں مصروف رکھ کر یہ سبق دیا کہ کام کئے جاؤ کہ یہی سرمایہ آخرت ہے۔

آخر میں قارئین کرام سے التماس یہ کہ اگر کوئی فرو گذاشت سامنے آئے تو ناچیز کو ضرور مطلع فرما کر احسان فرمائیں، اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نوا آموز کی اس پہلی کوشش کو مفید عالم بنا کر میرے لئے میرے والدین کیلئے اور میرے محسنین کیلئے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ عبدالرحیم فلاحی خادم القرآن جامعہ اکل کو



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## مقدمہ

از شمس العلماء حضرت مولانا سلیمان صاحب سمنشی

شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوا

جامعہ اشاعت العلوم اکل کوا کا اولین مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کو تجوید و صحت کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن کے پیغام و احکام سنے اور سمجھے جائیں اور عملی طور پر اپنی زندگی میں داخل کئے جائیں تاکہ حق تعالیٰ کے ساتھ صحیح تعلق پیدا ہو، اللہ رب العزت کی عظمت و شوکت، حاکمیت و مالکیت کا سکھ دلوں پر بیٹھے، شر و فساد، ظلم و عدوان کا اہرمن دم گھٹ کر مر جائے اور خیر و صلاح، عدل و کرم، کایزداں سایہ گستر ہو جائے، نیز جامعہ ہر ممکن طور پر یہ حقیقت آشکارا کرنا چاہتا ہے کہ قرآن کریم ہی وہ انقلابی کتاب ہے جس نے چھ صدیوں کی بگڑی دنیا صرف ۲۳ سال کی قلیل مدت میں تیر کی طرح درست کر دیا، چھ سو برسوں کے مردہ دلوں کو نہ صرف نئی زندگی بخشی بلکہ ان کو مسیحائی کے مقام پر لا کھڑا کیا، برسہا برس کے زنگ خردہ قلوب پر ایسی قلعی چڑھائی کہ پھر کوئی میل کچیل ان کے قریب نہ آسکی، قرآن کریم ایک مؤثر اور حیرت انگیز انقلاب برپا کر نیوالی کتاب ہے جس کی تاثیر کو آج بھی آزمایا جاسکتا ہے، کیونکہ یہ ایک زندہ کتاب ہے اس میں آج بھی وہی معجزہ نما تاثیر موجود ہے جو آج سے پندرہ سو برس پہلے موجود تھی، قرآن مالک الملک کا کلام ہے، رب کائنات کا پیغام ہے، علیم و خبیر کی طرف سے اہل علم کیلئے قانونی دستاویز ہے، حکیم مطلق کا تجویز کیا ہوا نسخہ کیمیا ہے، اپنی قوت تاثیر کو قرآن خود اپنی زبان میں یوں بیان کرتا ہے۔ ”لَوْ اَنْزَلْنَاهَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاٰیْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشٰیةِ اللّٰهِ“ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اسے مخاطب تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب

جاتا اور پھٹ جاتا، یعنی قرآن فی نفسہ ایسا موثر اور قوی الاثر ہے کہ پہاڑ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، مگر اس قرآن کا اثر وہی لوگ قبول کرتے ہیں جن کے سر میں سوچنے والا دماغ اور سینہ میں سمجھنے والا دل اور پیشانی میں دیکھنے والی آنکھیں موجود ہوں جس طرح روشنی میں صرف وہ آنکھیں دیکھتی ہیں جن میں بینائی ہوں اگر آنکھ ہی بینا نہ ہو تو آفتاب کی روشنی بھی چراغِ راہ نہیں بن سکتی۔ جامعہ اکل کو ابستی بستی جنگل جنگل صدالگاتا اور یہ یقین دلاتا ہے کہ ”لَا يَصْلُحُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَّحَ بِهِ أَوَّلُهُمَا“ یعنی اس امت کے اول طبقہ کی اصلاح جس چیز سے ہوئی تھی اسی سے اس امت کے آخری طبقے کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور وہ چیز ہے (قرآن مجید) جاہلیت کے شر الناس اسی قرآن سے خیر الناس ہوئے، جاہلیت کے گمراہ اسی مقدس کلام کی بدولت دنیا کے ہادی اور رہنما بنے، اور درندگی کی پستی میں گرے ہوئے اسی قرآن کے طفیل میں انسانیت کے بلند ترین مقام پر متمکن ہوئے، مختصر یہ ہے کہ اسی کتاب عزیز سے وابستہ ہو کر جنہی سے جنتی بن گئے، صحابہ کرام کے کتب خانہ اول میں قرآن ہی قرآن تھا انہوں نے اسی جبل متین کو مضبوطی سے تھام کر بلندی کے تمام مدارج طے کئے، ان کے رگ و پے میں قرآن ہی کی ہوا بھری ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ بلند و بالا تھے، دنیا کی قوموں نے ان کو دباننا چاہا، زمین پر پٹخنا چاہا، مگر جتنا پٹختے گئے صحابہ کرام اتنا ہی اوپر کو اٹھے، اور نہ صرف خود اٹھے بلکہ دنیا کو بھی بلند کر دیا، تاریخ شاہد ہے کہ قرآن نے جو ہوا اور شوکت مسلمانوں میں بھری تھی جب تک وہ بھری رہی مسلم قوم بلند و بالا رہی لیکن جب خواہشات نفس کی سوئی اس ہوا بھری گیند میں گھس گئی تو پھس سے ہوا نکل گئی، اب اس گیند میں اٹھنے کی سکت نہیں رہی جہاں ڈال دی جاتی ہے وہیں پھنسی پڑی رہ جاتی ہے، ضرورت ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو عام کیا جائے اور اس کے مواعظ و احکام سے عوام کو باخبر بنایا جائے تاکہ دنیا میں پھر ایک انقلابی اور صالح معاشرہ پیدا ہو، مقام مسرت ہے کہ جامعہ کے استاذ تفسیر و حدیث و فقہ مولانا عبدالرحیم فلاحی نے اس سلسلہ میں نیا قدم اٹھایا ہے، جو درحقیقت جامعہ اکل کو اکی مختلف الانواع خدمات میں سے بہترین خدمت ہے موصوف

خوش قسمتی سے حافظ قرآن بھی ہیں، اور ہر سال کہیں نہ کہیں رمضان میں تراویح پڑھایا کرتے ہیں، گذشتہ سال موصوف نے یہ التزام رکھا تھا کہ تراویح کے اندر جتنا قرآن سناتے تھے اس کا خلاصہ اور نچوڑ روزانہ تراویح کے بعد مصلیوں کو بتایا کرتے تھے، اور لوگ نہایت شوق و ذوق سے سنا کرتے تھے، موصوف نے روزانہ کے خلاصہ کو قلم بند کر کے محفوظ رکھا ہے جو نفع عام کی غرض سے شائع ہو کر عوام کے ہاتھوں میں پہنچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ موصوف کی اس کوشش کو قبولیت سے نوازے اور ہم سب کی طرف سے بہترین جزاء عطا فرمائے۔ آمین۔

دستخط

(حضرت) مولانا سلیمان صاحب سمشسی<sup>رح</sup>

سابق شیخ الحدیث

جامعہ اشاعت العلوم اکل کوا

## تقریظ

### از حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب مدظلہ العالی

استاذ حدیث و تفسیر و صدر مدرس دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر

قرآن پاک کی بہت سی خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ رمضان شریف کے پورے مہینے تراویح کی نماز میں اس کو سنایا جاتا ہے، اور نمازی اس کو قیام کی حالت میں انتہائی توجہ اور تواضع کے ساتھ سنتے ہیں اور اس کے سماع کے فیض سے روحانی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔

لیکن قرآن مجید انتہائی فصیح و بلیغ عربی زبان میں ہے جن کی زبان عربی نہیں ہے یا وہ عربی پڑھے لکھے نہیں ان کو قرآن میں مذکور احکام و ہدایات قصص و واقعات اور انبیاء علیہم السلام کی جدوجہد اور حالات کا پتہ نہیں چلتا۔

بہت عرصہ سے میری خواہش تھی کہ روزانہ تراویح میں جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے تراویح کے بعد ارمنٹ میں اس کا انتہائی مختصر انداز میں خلاصہ بیان کر دیا جائے تو لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور ان کو ان مضامین سے واقفیت ہو جایا کرے گی جو اس دن پڑھے جانے والے پارے میں مذکور ہوئے ہیں، یا کوئی ایسی تفسیر تیار ہو جائے جس میں اختصار کے ساتھ روزانہ پڑھے جانے والے حصے کی تفسیر مختصر تحریر کی گئی ہو طلباء سے اس ضرورت کا اظہار وقتاً فوقتاً کیا جاتا رہا، الحمد للہ عزیز القدر مولوی عبدالرحیم فلاحی مستند مدرس اشاعت العلوم اکل کو انے اس عظیم کام کو رمضان شریف کے اوقات میں جدوجہد کر کے پورا کیا جو الحمد للہ ایک انتہائی مختصر تفسیر ہے جس کو روزانہ تراویح کے بعد تھوڑے سے وقت میں روزانہ پڑھے جانے والے قرآن پاک کی مقدار کے حساب سے سنایا جاسکتا ہے عزیز موصوف نے مسلم عوام کیلئے یہ عظیم تحفہ پیش کیا ہے اور نام بھی تحفہ تراویح رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس تحفہ کو قبول فرمائے اور قرآن کے مضامین سے واقفیت کا ذریعہ بنائے اور عزیز موصوف کیلئے ذخیرہ آخرت ثابت ہو اس سلسلہ میں عزیز القدر مولانا غلام محمد وستانوی فلاحی مہتمم اشاعت العلوم اکل کو اور رکن شوریٰ دارالعلوم دیوبند بھی مبارک باد کے مستحق ہیں کہ موصوف نے طباعت کے سلسلہ میں مرتب کی حوصلہ افزائی فرمائی اللہ تعالیٰ دونوں حضرات کی مساعی جلیلہ کو قبول فرمائے آمین۔ خاکسار ذوالفقار احمد غفرلہ (۲۳ ستمبر ۲۰۰۰ء)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## تقریظ

حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدظلہ العالی

شیخ الحدیث جامعہ سبیل السلام حیدرآباد

قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، وہ زندگی کے ایک ایک مسئلہ میں انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے، وہ صبح و شام اور شب و روز کیلئے خضر طریق ہے، خلوت و جلوت اور بزم و رزم کیلئے مشعل راہ ہے وہ جینا بھی سکھاتی ہے اور مرنا بھی، مسلمان آج دنیا میں جن حالات و مشکلات سے دوچار ہیں ان کا اصل سبب یہی ہے کہ ان کی زندگی کا رشتہ قرآن مجید سے کمزور ہے بلکہ کمزور تر ہو گیا ہے اس نے بروہر پر حکومت کرنے والی اور قوموں کے تخت و تاج سے کھیلنے والی امت کو ذلت و خواری اور کبت و رسوائی سے دوچار کر دیا ہے، کہ ”ان الله يرفع به اقواما ويضع به آخرين“

حضرات علماء نے عربی زبان سے ناواقف عام مسلمانوں کیلئے قرآن مجید کے تراجم کئے اور تفسیریں لکھیں اور اسمیں شبہ نہیں کہ اس وقت عربی زبان کے بعد علوم اسلامی اور علوم قرآنی کا کام سب سے زیادہ اردو زبان میں ہوا ہے، لیکن بد قسمتی آج مشینی دور نے انسان کو اپنے خالق سے بلکہ خود اپنے آپ سے اتنا غافل کر دیا ہے اور خدا فراموشی اور خود فراموشی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کو اردو زبان کے اس خزانہ علمی سے بھی استفادہ کی توفیق میسر نہیں۔

رمضان المبارک کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس ماہ میں نسبتاً قرآن مجید کی تلاوت کی طرف توجہ ہوتی ہے اور تراویح ایک ایسی سنت ہے جو نماز پڑھانے اور پڑھنے والوں کیلئے قرآن مجید کے حفظ و تلاوت کی تجدید کا بہترین موقع ہے، اس ماہ میں من جانب اللہ نیکوں کی توفیق بڑھ جاتی ہے، دل کی زمین نرم ہو جاتی ہے اور نیکوں کی طرف قدم خود اٹھنے لگتے ہیں، یہ بہترین زمانہ ہے کہ عام مسلمان بھائیوں کو قرآن کی تعلیمات اور اس کے مقاصد و ہدایات کی طرف متوجہ کیا جائے۔

اسی پس منظر میں محی فی اللہ جناب مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحی وفقہ اللہ بما یحب

ویرضی۔ نے یہ مختصر لیکن جامع اور نافع تحریر مرتب فرمائی ہے، عام طور پر روزانہ سواپارہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اس مناسبت سے مولانا موصوف نے روزانہ سواپارہ کی کے لحاظ سے مضامین قرآن کا خلاصہ مرتب کر دیا ہے، جسمیں اس حصے میں آنے والے احکام و قصص کی طرف بھی اشارہ ہے اور تذکیری و دعوتی مضمون کو بھی نمایاں کیا گیا ہے، زبان آسان و عام فہم ہے اور اختصار ملحوظ ہے تاکہ پانچ سات منٹ کے وقفہ میں پڑھ لیا جائے۔

مولانا عبد الرحیم صاحب مستند عالم دین ہیں، حافظ اور قاری بھی ہیں، تقریر و تحریر کا بھی ذوق رکھتے ہیں، حدیث و تفسیر کی اعلیٰ کتب ملک کے ممتاز معروف دینی جامعہ ”جامعہ اشاعت العلوم اکل کوا“ میں پڑھا رہے ہیں اور انتظام و انصرام میں بھی ید طولیٰ رکھتے ہیں، مولانا موصوف کی یہ تحریر میں جا بجا دیکھی ہے بجز اللہ بہت نافع پایا، امید ہے کہ تراویح اور نماز کے درمیان اس کا پڑھنا بہت مفید ہوگا دعا ہے کہ اللہ اس کو نافع بنائے، مرتب کو اس طرح کے اور دینی و علمی کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور قلم کا یہ مسافر کبھی تعب و تھکن سے آشنا نہ ہو۔ و باللہ و هو المستعان۔

خالد سیف اللہ (صاحب) رحمانی

نزیل:- جامعہ اشاعت العلوم اکل کوا

۷/ ذوالحجہ ۱۴۱۹ھ

باسمہ تعالیٰ

-: کتاب ہدایت کے انمول موتی :-

تقریظ دل پذیر

از:- جامع العلوم استاذ الاساتذہ حضرت مفتی عبداللہ صاحب المظاہری  
بانی جامعہ مظہر سعادت ہانسوٹ گجرات الھند

حامدا و مصليا و مسلما ..... قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ چھپنے والی، سب سے زیادہ قابل احترام اور سب کتابوں کی ناسخ کتاب ہے۔ جس میں خالق ارض و سماء مالک کون مکاں نے تخلیق کائنات کا مقصد، اعمال صالحہ و افعال سیئہ پر مرتب ہونے والے نتائج، ایمان و یقین، کفر و شرک کے راستوں کا تعین، ان پر جزاء و سزا کا تذکرہ، قبر و برزخ، حشر و نشر، قیامت و آخرت کے احوال، جنت و دوزخ کے حالات، ہزواؤں کی اقسام، جزاؤں کے درجات کا خوب تذکرہ کیا ہے جسمیں امم سابقہ کی ہلاکتوں کی داستاں بھی ہے، اور انکی ترقیوں اور خدا داد نعمتوں پر شکر ادا کرنے، عروج عزت و افتخار کے قصے بھی ہیں جو برائے درس زندگی اور عبرت کیلئے ہیں۔

امت مسلمہ نے قرآن مجید کے حفظ، تلاوت اور اشاعت کا ہمیشہ اہتمام کیا ہے اور رمضان المبارک تو قرآن مجید کا موسم بہار ہے، اس ماہ میں تمام مسلمانوں کا رجوع قرآن مجید کی طرف ہوتا ہے لیکن ہم لوگ عجمی ہونے کی بناء پر قرآن مجید کو سمجھتے ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں ہماری نمازیں پابندی سے ہوتی ہیں، ہم تلاوت بھی خوب کرتے ہیں لیکن قرآن مجید سمجھنے سے قاصر ہیں اس کے لطف اور مزے سے نا آشنا ہیں مقصود خدا سمجھنے اور فرمان الہی کے جاننے سے عاجز

ہیں، حالانکہ حافظ صاحب پڑھتے جاتے ہیں اور ہم سنتے جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے عزیز القدر برادر خورد ہونہار اور مستند عالم دین استاذ حدیث و فقہ جامعہ اشاعت العلوم اکل کو اجنب مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحتی رویدروی کو کہ انہوں نے کمی کوشدت سے محسوس کیا اور خدا کا پیغام خدا کے بندوں تک ان کی اپنی زبان میں پہنچانے کی سعی فرمائی، اور روزانہ عام طور پر پڑھی جانے والی مقدار کا تفسیری خلاصہ مرتب فرمایا، جو آسان سلیس اور عام فہم زبان میں ہوتے ہوئے معلومات افزاء، تربیتی پہلو کا حامل اور عوام میں قرآن فہمی کا ذوق و شوق پیدا کرنے غور و خوض پر آمادہ کرنے کا بیش بہا اور انمول تحفہ ہے۔

اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس کتاب سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطاء فرمائے اور قبولیت عامہ سے نوازے، اور مصنف کتاب کی اس پہلی تصنیف کو دیگر تصنیفات کا پیش خیمہ بنائے۔ آمین۔ برادر موقر کے قلم گوہر بار سے مزید تصنیفات و تالیفات معرض وجود میں آنے کا ذریعہ بنائے، ایسی میری دلی دعا ہے آمین۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

(مفتی) عبد اللہ المظاہریؒ

خادم جامعہ مظہر سعادت ہانسوٹ



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## رائے گرامی

سید القراء قاری ابوالحسن صاحب اعظمی

فخر القراء دارالعلوم دیوبند

قرآن کریم کے حقوق اربعہ، محبت، عظمت، تلاوت مع الصحیحہ، اور اطاعت میں مؤخر الذکر کی  
اہمیت واضح ہے،

قرآن کریم بنی نوع انسان کی ابدی ہدایت اور رہنمائی کیلئے ایک دستور حیات ہے اس اہم  
اور واضح مقصود پر دور صحابہ سے اب تک اقوام عالم نے عمل کر کے دنیا کو دکھایا کہ یہ دستور اور منشور عمل  
اپنے اندر کتنی انقلابی قوت رکھتا ہے۔

یہی وہ کتاب زندگی ہے جس نے پست سے پست اقوام کو عروج اور بلندی کے انتہائی مقام  
پر پہنچایا، اور کسی قوم نے اسے اپنی عملی زندگی دور کیا تو خود کو تعزیرت میں پایا۔

آج الحمد للہ قرآن کریم کو محبت و عظمت اور تلاوت مع الصحیحہ کے پہلو بہ پہلو کسی نہ کسی طور پر  
عمل و اطاعت کے ساتھ مسلمانوں نے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے اور اس کے مظاہرے بھی دیکھنے کو ملتے  
ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ قرآن عزیز ہے، علی الخصوص ماہ مبارک میں  
جسمیں یہ کتاب نازل ہوئی۔ ”شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ  
مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ الْخ“

رمضان المبارک میں سارے عالم اسلام میں اور جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں اور بستے ہیں  
نماز تراویح کا ایک مسلسل اور عالمی نظام ہے، اس میں حسب توفیق اور موقع قرآن کریم ایک بار اور  
متعدد بار ختم کیا جاتا ہے، نماز تراویح میں تلاوت شدہ اجزاء قرآنی کے ترجمہ اور مفہوم سننے کا عوامانہ تو  
رواج اور نظام ہے اور نہ اتنا وقت لگایا جاتا ہے، صرف تلاوت ہی تلاوت ہوتی ہے (الا ماشاء اللہ) لیکن

یہ ناممکن نہیں ہے، مساجد میں عموماً فضائل وغیرہ سے متعلق کسی نہ کسی نماز کے بعد پورے سال کسی نہ کسی کتاب کے سنانے کا نظام قائم ہے۔

اس طرح کی کوئی مختصر کتاب راقم الحروف کے محدود مطالعہ سے نہیں گذری ہے، مگر اس کی اہمیت اور ضرورت بہر حال مسلم ہے۔

جامعہ اشاعت العلوم اکل کو ا کے بیدار مغز، فعال اور متحرک بانی و مہتمم کو راقم آیہ من آیات اللہ سمجھتا ہے، جامعہ کا قیام صحیح اور کما حقہ تلاوت قرآنی کی ایک تحریک ہے، اس سلسلے میں بانی کے عزیز قریب محترم جناب مولانا عبدالرحیم صاحب زید مجرہ جیسی انتھک شخصیت کی دریافت جامعہ کیلئے بجائے خود ایک اہم چیز ہے، جناب مہتمم صاحب کو راقم اس درنایاب کے ہاتھ لگ جانے پر مبارکباد پیش کرتا ہے۔ جناب مولانا عبدالرحیم صاحب نے اپنی بے انتہاء مصروفیات میں سے بیش قیمت وقت نکال کر اس نہایت اہم اور مفید ترین موضوع پر یہ گر انقدر کام کر ڈالا۔

بڑے ہی مختصر اور جامع انداز پر ساری متعلق باتیں سمیٹ لیں ہر سورت میں بیان کردہ مضامین اور مسائل کا ایسا عطر اور خلاصہ نکال کر رکھ دیا کہ بہت تھوڑے وقت میں سامع کے سامنے تراویح میں سنی گئی تلاوت کا مفہوم اور مطلب واضح ہو کر آجائے۔

ایسی گراں بہا کتاب کی اہمیت اور افادیت سے کسے انکار ہو سکتا ہے، ضرورت ہے کہ جلد از جلد یہ کتاب اپنے طباعتی مراحل سے گذر کر تمام مساجد کے ائمہ عالم غیر عالم بغیر کسی تخصیص کے ہر مسلمان کے ہاتھوں میں پہنچے، اور اس سے خوب خوب استفادہ کیا جائے م راقم الحروف مصنف موصوف سے ابتداء ہی سے بے حد متاثر رہا ہے اس کتاب کی تیاری پر دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے نفع کو عام اور تمام فرمائے، مصنف کی حیات میں ہمت و عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ آمین!

(قاری) ابو الحسن اعظمی

خادم القراءۃ - دارالعلوم دیوبند

باسمہ تعالیٰ

## رائے عالی

ناشر قرآن حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی متعنا اللہ بطول حیاتہ  
رئیس الجامعہ اشاعت العلوم اکل کو اور کن شوری دارالعلوم دیوبند

### أفلا يتدبرون القرآن؟

قرآن مبین کو مقدس کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ کلام الہی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے! یہ ایک پر حکمت آفاقی اور لاثانی کتاب ہے اس کی تلاوت باعث اجر و ثواب اور عمل باعث نجات ہے، اسکے ساتھ محبت علامت ایمان اس کا شغف مسلمان کی شان مؤمنین کیلئے یہ ذکر کی ہے تو متقین کیلئے ہدیٰ اور زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرنے والا مکمل دستور بھی، اس کی بار بار تلاوت اور تدبر سے جو کہ قرآن کریم کا مطالبہ ہے نئے نئے معانی پیدا ہوتے ہیں دنیا و آخرت کا ایقان اور احسان پیدا ہوتا ہے اگر اسکے معانی بالتحقیق بیان کئے جائیں تو وہ شافی ہیں اور بالاختصار بیان کئے جائیں تو کافی ہیں، الغرض علوم و معارف کا بحر ناپیدا کنار عقول کا دفتر ان گنت پند و نصائح کا گنجینہ ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے،

تقاصر عنه افہام الرجال

جميع العلوم في القرآن لكن

یہی وہ قرآن ہے جس کی تعلیم نے اس قوم کو جو دنیا کی ساری قوموں میں پسماندہ اور گھٹیا تھی اتنا اونچا کیا دنیا کی تمام قومیں اس کے سامنے سرنگوں ہو گئیں، جس زمانہ کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا اسی تعلیم کے صدقہ اسے خیر القرون کہا جانے لگا، الغرض قرآن کریم کی تعلیم اور اس کا پیغام امت کے ایک ایک فرد تک لازمی اور ضروری ہے تاکہ بگاڑ دور ہو اور افراد امت میں صلاح و فلاح پیدا ہو، الحمد للہ علماء امت نے قرآن کریم پر کافی محنتیں کیں اور اس کے الفاظ و معانی پر چھوٹی بڑی بے شمار کتابیں لکھیں، عزیز مولا نا عبد الرحیم صاحب فلاحتی نے جو کہ جامعہ ہذا کے لائق فائق اور فعال استاذ ہیں اسی سلسلہ کا

ایک البیلا اور انوکھا کام کیا جس کی بے انتہا ضرورت محسوس کی جا رہی تھی اور میری دیرینہ آرزو بھی تھی کہ تراویح میں جو قرآن ایک مخصوص مقدار میں پڑھا جاتا ہے اس کا لب لباب اور خلاصہ اچھے اور اچھوتے انداز میں پیش کیا جائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے مولانا عبدالرحیم صاحب کو انہوں نے بڑی ہی جانفشانی اور عرق ریزی سے اس کام کو انجام دیا اور میری قلبی تمنا اور آرزو کو پورا کیا اللہ تعالیٰ اس کے نفع کو عام و تمام کرے اور خاص و عام میں قبولیت بخشے اور موصوف کیلئے ذخیرہ آخرت بنائے اور انہیں مزید زور قلم سے نوازے۔

﴿آمین﴾

مولانا غلام محمد صاحب وستانوی

خادم جامعہ اشاعت العلوم اکل کو اضلع مندو ربار

# ”تحفہ تراویح“ ایک انمول تحفہ

حضرت مولانا زبیر اعظمی ایولہ ضلع ناسک

قرآن کریم آسمانی صحیفہ ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جس میں آج تک ادنیٰ تغیر نہیں ہوا اور نہ ہوگا اور نہ یہ کبھی فنا ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکی حفاظت کا خود خدا نے ذمہ لیا ہے، چنانچہ ابتدا سے آج تک ہزاروں سازشوں کے باوجود قرآن پاک دنیا میں آن بان کے ساتھ موجود ہے یہ اس کا زبردست اعجاز ہے، ایک انگریز مفکر کا قول ہے کہ اگرچہ قرآن پر میرا ایمان نہیں ہے لیکن نہ تو اس میں کوئی تحریف ہوئی ہے اور نہ اس سے زیادہ روئے زمین پر پڑھی جانے والی کوئی اور کتاب ہے، اگر بالاتفاق دنیا میں قرآن کے جتنے نسخے ہیں انھیں دریا برد کر دیا جائے تو بھی قرآن فنا نہیں ہو سکتا، پچاس سال کے بعد بھی یہ اپنی اصلی شکل و صورت میں ہمارے سامنے حاضر ہو جائینگے، ایسا دعویٰ دنیا کی کسی کتاب کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ایک محتاط اندازے کے مطابق پورے عالم میں ایک کروڑ حفاظ قرآن موجود ہیں جس میں ہزاروں ایسے بھی ہیں جنھیں قرآن کریم کے تمام رموز و اوقاف بھی ازبر ہیں اور پورا قرآن حفظ کی پختگی میں ان کیلئے سورہ فاتحہ جیسا ہو گیا ہے، پس ان کے حفظ کی روشنی میں ہزاروں نسخے زیور طبع سے آراستہ ہو جائینگے، الغرض قرآن جب قیامت تک اصلی صورت میں ہی باقی رہیگا تو اسی سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ دنیا کے قوانین میں خواہ ہزاروں تبدیلیاں ہو جائیں لیکن اس کے اصول و ضوابط ہر انسانی زندگی کو راہ ہدایت، جادہ تہذیب و تمدن اور صراط مستقیم دکھاتے رہیں گے، اس کی موجودگی میں کسی دوسرے ضابطہ حیات کی ضرورت نہیں ہوگی اسلئے اسکے قوانین میں تبدیلی کی بات وہی دیوانے کرتے ہیں جن کے پاس کوئی فطری ضابطہ اخلاق اور ضابطہ حیات نہیں ہے، ایک مسلمان کے پاس قرآن کے ہوتے ہوئے تمام شعبہ ہائے زندگی کا پورا نظام موجود ہے، اس سورج کی روشنی میں اسے کسی اور

چراغ کی روشنی کی ضرورت باقی نہیں۔

بایں ہمہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کیلئے اس کو حسب توفیق وسیع سمجھنا بھی ضروری ہے لیکن آج کی بے حد مصروف اور مشیننی دنیا میں عام طور پر لوگوں کو نہ اس کا وقت ملتا ہے اور نہ دل سے اس کی خواہش و رغبت اور پورا اہتمام ہوتا ہے، بلکہ اگر گستاخی پر محمول نہ کیا جائے تو کہنا بے جا نہیں کہ زیادہ ائمہ مساجد بھی قرآن پڑھتے پڑھاتے ضرور ہیں لیکن معانی و مطالب سمجھنے سے بے اعتنائی برتتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انھیں بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ قرآن میں کیا باتیں مذکور ہیں۔ کچھ ہی سہی۔ ہاں قرآن کی تلاوت کے سلسلہ میں ہمارا مشاہدہ ہے کہ عام ایام میں کم مگر رمضان المبارک میں تقریباً ہر مسلمان تلاوت کی طرف راغب ہوتا ہے اور گھروں اور مسجدوں کی فصائل تلاوت کی صداؤں سے معمور ہوتی ہیں ساتھ ہی نمازوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے تراویح بھی لوگ شوق سے پڑھتے ہیں اور پورا قرآن نماز میں سننے والے خوش نصیبوں میں شامل ہوتے ہیں۔

جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوآ کے استاذ حدیث و تفسیر مولانا عبدالرحیم فلاحتی صاحب ہر سال رمضان المبارک میں کہیں نہ کہیں پورا قرآن تراویح میں سناتے ہیں سو پارہ کے حساب سے اور سو پارہ سنانے کا طریقہ تقریباً ہر جگہ رائج ہے، ایک دو سال پہلے انھوں نے جہاں قرآن سنایا وہاں روزانہ سو پارے میں جو خاص خاص مضامین ہوتے انھیں اختصار کے ساتھ خلاصہ کی صورت میں لکھتے رہتے تھے، اور ختم تراویح کے بعد اور تر سے پہلے تمام مصلیوں کو سنا دیتے تھے، یہ سلسلہ لوگوں کو بہت پسند آیا، بعد میں انھیں خیال ہوا کہ ستائیس حصوں پر انھیں تقسیم کر کے ہر سو پارہ کے مضامین کوئی ترتیب و تہذیب کے ساتھ یکجا کر کے کتابی شکل دیدی جائے تو یہ مفید علمی خدمت ہوگی، چنانچہ انھوں نے پہلی تراویح سے ستائیسویں تراویح تک ایک ابواب قائم کر کے ہر تراویح میں تلاوت کردہ سو پارہ کا مختصر مگر جامع خلاصہ پیش کیا کتاب کی زبان رواں سلیس با محاورہ اور علمی ہے جو تقریباً ہر خواندہ و ناخواندہ سمجھ سکتا ہے، یہ کتاب سب کیلئے ایک جامع اور مفید تحفہ ہے اس کا نام

بھی انھوں نے ”تحفہ تراویح“ تجویز کیا ہے، میں نے خود چند ابواب کو دیکھا اور بہت پسند کیا ہے  
 اگر رمضان المبارک میں ہر حافظ تراویح کے بعد التزام کے ساتھ اس کے سوا پارہ کا خلاصہ پڑھ کر  
 تمام نمازیوں کو سناتا رہے تو انشاء اللہ اس کے بہت مفید نتائج سامنے آئیں گے، یہ کتاب بجا طور پر  
 اس کی مستحق ہے کہ محبت کے ہاتھوں سے لی جائے اور عقیدت کی نگاہوں سے پڑھی جائے۔

محمد زبیر اعظمی ایولہ، ضلع ناسک

۱۲/ اپریل ۱۹۹۹ء

شهر رمضان الذی انزل فیہ  
 القرآن ہدی للناس و بینت  
 من الہدی والفرقان  
 (القرآن)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## کلمات دعائیہ

از استاذ العلماء حضرت مولانا ایوب صاحب سورتی

مجازی السنۃ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی

بعد الحمد و الصلوٰۃ! قرآن کریم پورے عالم کے انسانوں کیلئے سرمایہ سعادت اور ذریعہ ہدایت ہے جس کو بھی ہدایت ملی اسی قرآن کریم کی بدولت ملی شرط یہ ہے کہ اسے غور سے پڑھا اور سمجھا جائے۔

الحمد لله قرآن کریم معانی کی تشریح و توضیح کیلئے بے شمار کتب تفسیر مختصر اور طویل اور متوسط انداز میں آچکی ہیں، اسی کے ساتھ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں ہر مسلمان تراویح کی نماز میں روزانہ تقریباً سو پارہ پڑھتا اور سنتا ہے اور اس طرح ایک ماہ میں پورا قرآن ختم ہوتا ہے۔

ضرورت تھی کہ روزانہ کی پڑھی جانے والی مقدار کی مختصر تشریح و توضیح تمام نمازیوں کے سامنے آجائے اس لئے کہ آج کے مصروف دور میں لوگ مختصر اور سہل چیزوں کو تلاش کرتے ہیں۔ عزیزم محترم مولانا عبدالرحیم رویدروی صاحب استاذ الحدیث جامعہ اشاعت العلوم اکل کو انے لوگوں کے ذوق کو سامنے رکھ کر روزانہ پڑھے جانے والے سو پارہ کی بہت عمدہ عام فہم تشریح کر دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عامۃ المسلمین کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے اور اس سے لوگوں کو بے حد نفع پہنچائے میری دعائے ہے کہ اس تشریح و توضیح کو قبول عام نصیب ہو۔

محمد ایوب صاحب سورتی

خادم مجلس دعوة الحق انگلینڈ



داعی الی اللہ مزاج شناس حضرت جی مولانا احمد لاٹ صاحب دام ظلہ العالی  
(خلیفہ حضرت مولانا علی میاں ندویؒ)

اس وقت کرہ ارض پر صحابہ کرامؓ کے مقابلے میں صرف حفاظ کرام کی تعداد لاکھوں گنا موجود ہے لیکن سورہ فاتحہ سے والناس تک نہ ہی اس کا علم ہوتا ہے کہ قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے نہ ہی اس کا خیال آتا ہے کہ مجھے اسے سمجھنا چاہیے، ایسے وقت میں وقت کی سب سے بڑی اور سب سے اہم ضرورت کی طرف امت کے حفاظ کرام کی توجہ مبذول ہونے کیلئے عزیزم مولوی عبدالرحیم سلمہ کی یہ کتاب لگے تالوں کو توڑنے کنڈیوں کے کھلنے اور جہالتوں کی دیواروں کے منہدم ہونے کیلئے ایک الہامی صورت بن سکتی ہے۔

عالم صالح جناب مولانا احمد صاحب طنز کاروی

استاذ حدیث جامعہ مظہر سعادت ہانسوٹ (بھروچ گجرات)

کلام احکم الحاکمین کا اختصار یقیناً کارے دارد بلکہ جوئے شیر لانے کا مرادف ہے، یہ عظیم کارنامہ بعون اللہ آپ کے مبارک ہاتھوں انجام پایا تحفہ بجا طور پر اس بات کا مستحق ہے کہ قدر کے ہاتھوں لیا جائے اور مساجد میں تراویح سے قبل یا بعد میں اجتماعی طور پر تعلیم کی جائے، جس کے نتیجے میں ایک طرف مصلیٰ قرآنی روحانیت سے سرشار ہو ہو تو دوسری طرف کتاب ہدایت سے اپنی زندگی کا توشہ فراہم کرے۔

## حضرت مولانا محمد مجتبیٰ صاحب

شیخ الحدیث ہدایت الاسلام، عالی پور

اس کتاب کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ الفاظ میں ایسی سادگی ہے جسے ہر کوئی سمجھ سکے مگر اس کے ساتھ ساتھ کلمات کو جملوں میں اور جملوں کو سیاق سے اس انداز سے فٹ کیا ہے کہ اس وضع و ترتیب کے حسن نے چار چاند لگائے اور سماع و قرأت میں ایک عجیب کشش و حلاوت پیدا کر دی ہے، بلکہ مجمع میں سنانے والا اگر لب و لہجہ کے اتار چڑھاؤ سے واقف ہوگا تو واقعہً اسم بامسمیٰ ہو کر ظاہر ہوگی اور لوگوں کو قلبی سرور و لطف حاصل ہوگا۔

ہر تراویح کے خلاصہ کے بعد فاتحہ و خاتمہ کا انداز بھی نرالا نظر آیا جسمیں جناب کی شان خطابت کی جھلک نظر آتی ہے۔

بامحاورہ خلاصہ میں بعض جگہ منظر کشی ایسی عجیب و غریب انداز میں واقع ہوئی ہے کہ سیاق و سباق کے ساتھ ربط کی ضرورت نہیں۔

## فقیرہ مالوہ عالم نوجوان حضرت مولانا جنید احمد صاحب

استاذ عربی دارالعلوم سیندھو

تحفہ تراویح نے اخلاقی اصول قرآنی کی جو دفعہ بندی کی ہے اور جس طرح آیات فرقانی سے تہذیبی اور اخلاقی دفعات کا استخراج کیا ہے اس نے مصنف مدظلہ کو جدید طرز کے محقق و دور درسی و دقیقہ سنج مصنفین کی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔

# استاذ الاساتذہ صدر القراء قاری رضوان نسیم صاحب مدظلہ

جامعہ مظاہر العلوم سہارن پور (یوپی)

عزیز گرامی مولانا عبد الرحیم صاحب سلمہ اللہ الرحیم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آپ کی تالیف ”تحفہ تراویح“ ایک انوکھا تحفہ بن کر پہنچا، یہ بہت سے ان لوگوں کیلئے نعمتِ غیر مترقبہ ہے جو قرآن کریم کے صرف الفاظ پڑھ یا سن لیتے ہیں لیکن اس کے معانی و مفاہیم اور کلام الہی کی روح سے ناواقف رہتے ہیں، بے شک قرآن کریم کی محض تلاوت بھی بڑے ثواب اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے لیکن اس کے معانی و مطالب سمجھنا بھی بے حد ضروری ہے، رمضان المبارک میں مسلمان تراویح میں قرآن کریم سننے کا بڑے شوق و ذوق سے اہتمام کرتے ہیں لیکن ان میں اکثریت اس کے معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے پورے طور پر لطف اندوز نہیں ہوتی، آپ نے یہ کتاب لکھ کر بہت عظیم کارنامہ انجام دیا، اس کی بڑی ضرورت تھی اب حفاظ کرام کیلئے یہ کام بڑا آسان ہو گیا ہے کہ وہ ہر روز تراویح کے بعد مقتدیوں کو اس کتاب سے وہ حصہ سنا دیا کریں جو اس دن تراویح میں تلاوت کیا ہے اس سے نہ صرف ان کی دینی معلومات میں اضافہ ہوگا بلکہ ان کے دلوں میں قرآن کی جو عظمت و محبت ہے اس میں بھی انشاء اللہ زیادتی ہوگی، یہ ایک اہم نازک اور انتہائی ضروری کام تھا جو رحیم نے اپنے بندہ سے لیا میں آپ کو اور آپ کے مربی عزیز مفتی عبد اللہ صاحب کو اس مبارک کام پر مبارک باد پیش کرتا ہوں، اور دعاء کرتا ہوں کہ کریم آقا آپ کو مزید ہمت و توفیق سے نوازے علمی، عملی اور دینی ترقیات سے سرفراز فرمائے، اور صحت و عافیت کے ساتھ آپ کی عمر دراز ہو۔ فقط

نوٹ: طبیعت چاہتی ہے کہ آئندہ اس کی کتابت، طباعت اور تصحیح اس کے شایان شان ہو۔

دعاء گو و دعا جو

محمد رضوان

# تحفہ تراویح

تصنیف لطیف جناب حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب الفلاحی  
استاذ تفسیر و حدیث جامعہ اکل کوا

پر اثر ہے یعنی نقش کا حجر ہے یہ کتاب	تیرگی شب میں شمع جلوہ گر ہے یہ کتاب
قاری قرآن کا سچا ہمسفر ہے یہ کتاب	ماہ رمضان کی مبارک مجلسوں کے واسطے
حافظوں کے واسطے اک راہبر ہے یہ کتاب	اہل دانش کیلئے تحفہ جام زلال
جن کے دل کی آرزوؤں کا گہر ہے یہ کتاب	خادم قرآن شبانہ روز ہیں وستانوی
جن کی محنتوں کا درخشندہ ثمر ہے یہ کتاب	قابل صد آفریں ہیں مولوی عبد الرحیم
ان کی سعی کامراں کا خوش اثر ہے یہ کتاب	کر کے تسہیل معانی بن گئے حضر طریق
ظلمت شب کیلئے نجم سحر ہے یہ کتاب	اک نرالی کد و کاوش اک انوکھا انتخاب
در حقیقت مژدہ فتح و ظفر ہے یہ کتاب	عصر حاضر کا تقاضہ تحفہ حفاظ ہے
ہے معانی کا سمندر مختصر یہ کتاب	ہے سوا پارہ کا یکجا دیکھنے لب لباب
موجہ علم و حکم سلکِ دُرر ہے یہ کتاب	کوزے میں دریا کہی جانیکی یہ مصداق ہے
حافظوں کا رہنمائے چارہ گر ہے یہ کتاب	اے ولی ہے قوم مومن کا یقیناً مدعا

ولی اللہ ولی قاسمی بستوی

استاذ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوا، نندو ربار، مہاراشٹر

## پہلی تراویح

آج کا بیان پہلے سواپارے کی تلاوت پر مشتمل ہے یعنی سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی ایک سو چھہتر (۱۷۶) آیات۔

سورۃ فاتحہ کو عام زبان میں الحمد شریف بھی کہتے ہیں، یہ سورۃ اگرچہ سب سے پہلے نازل نہیں ہوئی لیکن تلاوت اور کتابت کے لحاظ سے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورۃ ہے۔

سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے جو اللہ نے بندوں کو سکھائی ہے، یعنی سورۃ فاتحہ بندے کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک دعا اور درخواست ہے اور پورا قرآن اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس دعا کا جواب ہے، بندہ دعائیں کہتا ہے، ”اے میرے رب مجھے صراطِ مستقیم یعنی سیدھا راستہ بتا“

اس درخواست کے جواب میں یہ پوری کتاب اس کو عطا فرماتا ہے، کہ لے یہ ہے وہ ہدایت جس کی تو نے درخواست کی ہے اور یہ ہے سیدھی راہ جو تو چاہتا ہے، اس کے بعد سورۃ بقرہ شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن مجید اللہ سے ڈرنے والوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے یہ

ہدایت ان لوگوں کیلئے نہیں آئی جن میں ہدایت حاصل کرنے کی خواہش اور طلب نہیں ہے پس وہ گنگوں اور بہروں کی طرح محروم رہتے ہیں اس سورت میں غیب پر ایمان لانے کی نماز قائم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور ایمان کی تفصیل یہ بتلائی ہے کہ قرآن اور تمام آسمانی کتابوں پر

ایمان لایا جائے اور آخرت پر یقین رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کیا جائے، منافقت سے منع فرمایا گیا دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے،

منکروں کو دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے اور مومنوں کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، اس سورۃ میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کو اپنا خلیفہ بنانے اور اس سلسلہ میں فرشتوں اور آدم کے امتحان کا ذکر فرمایا گیا ہے، اللہ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ

کیا لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا، پھر اس لعین نے آدمؑ وحواء کو طرح طرح سے بہکانا شروع کیا یہاں تک کہ آدمؑ وحواء سے نادانستہ طور پر چوک ہو گئی اور جنت سے زمین پر اتار دئے گئے، انہوں نے توبہ کی جو قبول کی گئی۔

اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ کوہ طور پر گئے تو ان کی عدم موجودگی میں ان کی قوم نے پچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا پھر بھی اللہ نے ان کو معاف فرما دیا اور ان کو من و سلوٰی کی غذا عطا فرمائی اور ان کے بارہ قبیلوں کیلئے بارہ چشمے پانی کے معجزانہ طور پر عطا فرمائے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی یہود نہایت ناشکرے سرکش گستاخ و منافق ثابت ہوئے اور نتیجہً عذاب میں گرفتار ہوئے۔

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا ذکر ہے کہ وہ اپنے رب کی ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے اور انعام کے طور پر ان کو اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کا پیشوا بنایا پھر اللہ نے ان کے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی، اس مبارک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کی اولاد میں ایک ایسا نبی پیدا ہو جو ساری دنیا کو ہدایت کرے یہ بشارت تھی ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ کے ظہور قدسی کی طرف، چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی اور ہمارے نبی محمد ﷺ سارے عالم کیلئے نبی بنا کر مبعوث کئے گئے اور آپ ﷺ کے ذریعہ ساری دنیا کو ہدایت ملی آگے اس سورت میں قبلہ کی تبدیلی کا ذکر ہے جسمیں بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اور ہمیشہ کیلئے بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ جہاں کہیں بھی رہو نماز میں بیت اللہ کی طرف منہ کرو پھر مردار، خون، سور کا گوشت، اور غیر اللہ کے نام نذر کی ہوئی چیزوں کا حرام ہونا بتلایا گیا ہے۔

## دوسری تراویح

آج کا بیان دوسرے پارے کے ربیع سے تیسرے پارے کے نصف تک کی تلاوت پر مشتمل ہے سورہ بقرہ میں بڑی حد تک پوری اسلامی دعوت حقوق اللہ حقوق العباد نظام زندگی اور معاشرت کے اصول کی تعلیم دی گئی ہے، نماز روزہ اور حج کے احکامات بھی موجود ہیں زکوٰۃ صدقات، اور امداد باہمی مشوراتی نظام، شادی طلاق، عدت وصیت، لین دین، اور قرض وغیرہ کے متعلق بھی ہدایت دی گئی ہے امر و نہی، جائز و ناجائز باتوں کی تعلیم کا بہت زیادہ حصہ اس سورہ میں موجود ہے جسے اسلامی ضابطہ حیات کہتے ہیں۔

آج کی تلاوت کردہ آیات میں ایمان کی تفصیل اور اس کی شرط یہ بتائی گئی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اللہ کے رسول پر، روز آخرت پر، فرشتوں پر، سب پیغمبروں پر، اور ان سب کتابوں پر جو مختلف زبانوں میں مختلف پیغمبروں پر نازل کی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ اپنے مال میں سے والدین رشتہ دار اور یتیموں مسکینوں مسافروں اور غلاموں کی مدد کرنے میں خرچ کرو۔

قتل کے بارے میں جان کے بدلہ جان اور اگر مقتول کے وارث راضی ہو تو خون بہا یعنی معاوضہ کا حکم دیا گیا ہے، روزے فرض کئے گئے ہیں، اور معذوروں کیلئے رعایت رکھی گئی ہے مشرک اور مسلم مرد و عورت کا نکاح ناجائز قرار دیا گیا، بچوں کو دو سال اپنا یا غیر عورت کا دودھ پلانے کی اجازت دی گئی ہے، سود کا لین دین قطعاً حرام قرار دیا گیا ہے، اس سورہ شریف میں پیغمبروں کے قلبی اطمینان میں اضافہ کرنے کیلئے مردوں اور مردہ جانوروں کو زندہ کر کر دکھائے جانے کا ذکر فرمایا گیا ہے، پھر سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ نے اپنے بندوں کو دعا کے الفاظ اور طریقے سکھائے ہیں، نیز اس سورہ میں آیات قرآنی میں غور و فکر کرنے کی بار بار تاکید فرمائی گئی

اس کے بعد سورہ آل عمران کی ابتدائی اٹھارہ آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ عبادت کے لائق صرف خدا کی ذات پاک ہے اور یہ کہ قیامت ضرور برپا ہوگی اور اعمال کی جزاء و سزا ضرور ملے گی قرآن مجید اس لئے نازل کیا گیا ہے کہ حق و باطل میں امتیاز ہو جائے نیز یہ بتایا گیا ہے کہ جنگ بدر میں اللہ نے جس انداز میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اس میں سمجھداروں کیلئے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور گور و فکر کرنے والوں کیلئے بڑی عبرت ہے اور یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اہل ایمان مشکلات میں صبر کرتے ہیں خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور رات کے پچھلے حصے میں اٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ  
 كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - پ ۲ ر ۷

اے ایمان والو! تمہارے اوپر روزے فرض کئے گئے ہیں  
 جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے  
 تاکہ تم متقی بن جاؤ



## تیسری تراویح

آج کا بیان تیسرے پارے کے نصف سے چوتھے پارے کے ثلث تک کی تلاوت پر مشتمل ہے، اس سورت میں جبکہ بدر اور جنگ احد دونوں کا ذکر ہے جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف تین سو تیرہ (۳۱۳) تھی جن کے پاس قاعدے کے ہتھیار تک نہ تھے جب کہ کفار کی تعداد ہزاروں میں تھی، اور وہ پوری طرح مسلح تھے، مسلمانوں کی مدد اللہ نے فرشتوں سے فرمائی اور فتح نصیب ہوئی یہ جنگ بہت سی آنے والی جنگوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئی چنانچہ جنگ بدر کا بدلہ لینے کیلئے مکہ کے مشرکین نے زبردست لشکر کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کی اور احد کے میدان میں مسلمانوں سے جنگ کی اس جنگ میں فتح ہوتے ہوئے مسلمانوں کو شکست ہوگئی، کیونکہ فوج کے ایک حصے سے حضور ﷺ کی ہدایت پر عمل اور اس پر جے رہنے سے بھول ہوگئی اور مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے، مسلمانوں کی اس کمزوری کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی یہاں تک کہ حضور ﷺ کے چہرہ انور پر زخم آئے منافقین نے بھی مسلمانوں سے فریب کیا اور فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی اللہ نے مسلمانوں کی کمزوریوں کی نشاندہی کر کے اصلاح کے متعلق ہدایت دی ہے۔

ارشاد باری کہ کم فہم لوگ قرآن سے منمانے مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگ عذاب الہی میں مبتلا ہونگے، ارشاد باری ہے، غیر مذہب والوں کو اپنا راز نہ بتاؤ۔

پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بے موسم پھل عنایت فرماتے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کا مشاہدہ کیا کیونکہ بی بی مریم ان کی کفالت میں پرورش پاتی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کے لطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، جس کی تصدیق خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارہ میں بات کر کے کی تھی پھر ان

کے دیگر معجزات کا ذکر بھی کیا گیا، قرآن نے یہ بھی یقین دلایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھالیا نہ انکو قتل کیا گیا نہ صولی دی گئی رسول اللہ ﷺ نے خبر دی ہے کہ قرب قیامت میں دجال کو ہلاک کرنے کیلئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونگے اور پھر وفات پائینگے، لیکن عیسائی اپنے اس عقیدہ پر ہیں کہ ان کو صولی دی گئی تھی۔

یہودیوں کی طرح عیسائی بھی اسلام کی دعوت کے سخت مخالف تھے چنانچہ حضور ﷺ اور عیسائیوں کے درمیان مباہلہ یعنی ایک قسم کی شرط قرار پائی کہ دونوں فریق اپنے اپنے اہل و عیال کو لیکر اکٹھا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہم میں جو فریق باطل اور جھوٹ پر ہوں اس پر اپنی لعنت فرما، لیکن عیسائی اس قول و قرار پر قائم نہیں رہے اور مباہلہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ جھوٹی قسمیں کھانے کی سخت ممانعت فرماتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کو بندے کیلئے آزمائش قرار دیا ہے اور بخل سے منع فرمایا ہے مال و اولاد نجات کا ذریعہ نہیں ہیں، نجات تقویٰ اور پرہیزگاری سے حاصل ہوتی ہے، مومن قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور عاجزی سے اللہ کے حضور میں دعائیں مانگتا ہے، وہ قرآن کا مواضع نہیں لیتا، مومن کے نیک اعمال کا صلہ اس کے رب کے پاس ہے، تاکید فرمائی گئی ہے کہ اے ایمان والو! جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو میدان میں ثابت رہو اور اپنے مورچوں پر ڈٹے رہو اس سورۃ میں اللہ نے اپنے پیارے نبی ﷺ کی نرم خوئی اور خوش اخلاقی بیان فرمائی اور حضور ﷺ کی اس صفت کو اسلام کی دعوت کی کامیابی کا سبب بتایا ہے۔



## چوتھی تراویح

آج کی تراویح چوتھے پارے کے ثلث سے پانچویں پارے کے اختتام تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔

ان آیات میں معاشرہ کے اصلاح کے متعلق چند ہدایات وارد ہیں۔

(۱) سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غلط کمائی سے اور ظلماً مال حاصل کرنے سے روکا گیا ہے، مثلاً یتیم کا مال جو تمہارے پاس امانت ہو اس کو پورا پورا واپس کر دو اور ان یتیموں کے پاک اور عمدہ مالوں کو اپنے گندے اور گھٹیا مالوں سے مت بدلو!

(۲) دوسری ہدایت یہ دی گئی ہے کہ ایک سے زائد چار عورتوں تک شادی کی اجازت ہے،

لیکن اگر تم بیویوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک بیوی پر ہی اکتفا کرو اور بیویوں کے مہر

خوشدلی سے ادا کرو، ترکہ میں مرد اور عورت کے حصے مقرر فرمائے اور قرض کی ادائیگی کو مقدم ٹھہرایا

(۳) معاشرہ کو بدکاری اور زنا کاری سے پاک رکھنے کیلئے یہ قانون خداوند تعالیٰ نے پیش

فرمایا کہ زانی عورت کا جرم اگر چار گواہوں کے ذریعہ ثابت ہو جائے تو اس جرم کی پوری سزا اس

پر نافذ کرنا چاہیے اسی طرح بدکار مرد کیلئے بھی سخت سزا کا حکم ہے اور توبہ کی تاکید وارد ہے اور توبہ

وہی قبول ہے جو آخری وقت سے پہلے پہلے کی جاوے۔

زنا یعنی بدکاری کا جرم ثابت ہونے کیلئے شہادتوں کو لازمی قرار دیا اور جرم ثابت

ہونے پر بدکار عورت اور بدکار مرد کیلئے سخت سزا کا حکم ہوا گنہگاروں کو توبہ کی تاکید فرمائی لیکن یہ

واضح کر دیا کہ موت کے آخری وقت کی توبہ قابل قبول نہیں، اس کے بعد ان رشتوں کی تفصیل

ہے جن میں نکاح ناجائز ہے۔

(۴) اس کے بعد نکاح اور مہر کے متعلق بعض احکام کا بیان ہے کن کن عورتوں سے نکاح صحیح

ہے اور کون کونسی عورتیں حرام ہیں، ان کی تفصیل مذکور ہے مہر کی مقررہ رقم میں شادی کے بعد زوجین کی رضامندی سے کمی اور بیشی ہو سکتی ہے۔

تجارت میں باہمی رضامندی سے مناسب نفع لینا جائز ہے لیکن ظلم اور ہیرا پھیری مطلقاً ناجائز ہے جس کی سزا جہنم ہے کیونکہ یہ ایک بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہوں سے آدمی بچتا رہے اور نیک کام کرتا رہے تو اس کی برکت سے صغیرہ گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں، عورتیں اگر نافرمان اور قابو سے باہر ہوں تو ان کو سزا دی جاسکتی ہے لیکن سزا دینے کا بہانہ تلاش کرنا سخت گناہ ہے زوجین کے درمیان اگر سخت ناراضگی ہو جائے اور باہم فیصلہ نہ ہو سکے تو ثالث مقرر کر لینا چاہیے، بخیل اور ناشکرے لوگوں کیلئے ذلت کا عذاب ہے ناپاکی اور نشہ کی حالت میں نماز ناجائز ہے اور سخت گناہ، پانی میسر نہ ہونے کی صورت میں غسل اور وضو کیلئے تیمم جائز ہے، مسلمانوں کو امانتیں واپس کرنے اور انصاف کرنے اور خیانت نہ کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔

پھر جہاد کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے ذیل میں یہ بتلایا گیا ہے کہ شہادت کا مرتبہ بہت بلند اور بہت اونچا ہے مسلمانوں کیلئے موت سے ڈرنا بزدلی ہے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ گواہی سیدھے اور صاف الفاظ میں دینا چاہیے پچھرا گواہی ناجائز ہے، یہاں تک کہ اگر سچی گواہی کا مضراثر تمہاری اپنی ذات پر یا اپنے رشتہ داروں میں پڑتا ہو تب بھی سچی گواہی دینا چاہیے، ارشاد باری ہے کہ شرک ہر گز معاف نہیں کیا جائیگا، گو اور لغزشیں اس کی رحمت سے معاف ہو سکتی ہیں۔

اللہ اعلم  
اللہ اعلم

# پانچویں تراویح

آج کا بیان چھٹے پارے کے شروع سے ساتویں پارے کے ربح تک کی تلاوت سے متعلق ہے، سورہ مائدہ میں ایک عمومی ہدایت دی گئی ہے کہ شریعت کی پابندیوں کا پورا پورا احترام کرو، پھر اس کی تفصیل کرتے ہوئے مندرجہ ذیل احکام دئے گئے۔

(۱) حج کیلئے احرام باندھنے کے بعد حلال جانور بھی شکار کرنا حرام ہے۔

(۲) حلال جانوروں میں صرف ان جانوروں کو کھانا درست ہے جن کو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اور مردار ناجائز ہے، اسی طرح سور کا گوشت، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، گلا گھونٹ کر یا چوٹ کھا کر مرنے والا یا دوسرے جانور کا شکار کیا ہو امر دہ جانور حرام ہے۔

(۳) پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فال یا پانسوں سے اپنی قسمت کا حال نہ معلوم کیا کرو کیونکہ یہ فعل فاسقوں کا ہے فائدہ اور نقصان صرف اللہ کی طرف سے ہے تم اپنے دین پر ایمان رکھو جس کو اب اللہ نے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، لہذا شرعی پابندیوں کا احترام کرو اور حلال و حرام میں تمیز کرو ارشاد ہوا کہ تم پر ہیز گار اور شکر گزار رہو۔

سورہ مائدہ میں مسلمانوں کے مذہبی تمدن معاشرتی اور سیاسی زندگی کے متعلق احکام نازل ہوئے سفر حج کے آداب دینی شعائر کا احترام حرام و حلال کے حدود اہل کتاب سے نکاح و تعلقات وضو غسل اور تیمم کے قاعدے بغاوت فساد اور چوری کی سزائیں شراب اور جوئے کی ممانعت قسم توڑنے کا کفارہ اور قانون شہادت کے متعلق تفصیلی احکامات نازل ہوئے، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت اس کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہود و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ کیونکہ یہ آپس میں سازش کے تحت دوستی کئے ہوئے ہیں عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث کفر ہے اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہیکہ کافروں کے کفر سے غم ورنج نہ

کیجئے، کافروں کے دل میں قیامت کیلئے عداوت اور بغض ڈال دیا گیا ہے، ظالم بے مددگار رہیگا، اور مشرک پر بہشت حرام ہے البتہ پہلے کے آسمانی مذاہب کے وہ لوگ جو نیک اعمال والے ہونگے اور اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھنے والے ہونگے نجات پائیں گے، اللہ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو! جو پاک چیز کو اپنے لئے حرام کر لو گے تو اللہ کے قانون کے بجائے اپنے نفس کی پیروی کرو گے، مثلاً عیسائی راہبوں کی طرح ترک دنیا کرنا اور حلال لذات اپنے اوپر حرام کر لینا غلط اور ناجائز طریقہ ہے۔

اے مسلمانو! تم جان بوجھ کر قسمیں کھاتے ہو اور پھر ان قسموں پر قائم رہنے کے بجائے ان کو توڑ دیتے ہو تو ان پر ضرورتاً سے باز پرس کی جائیگی ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، ورنہ تین دن کے روزے رکھو، اے مسلمانو! شراب، جوا، آستانے، فال اور پانسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے ان کی امت کے بارے میں سوال کریں گے تو وہ خود عرض کریں گے کہ ہم وہی جانتے ہیں جس کا تو نے حکم دیا تھا باقی پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا صرف تو ہے احرام کی حالت میں شکار نہ کرنا، اگر تم دانستہ ایسا کرو گے تو اس کا کفارہ دینا ہوگا، جو جرم اور غلطی کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے، لہذا اہل علم سے پوچھ کر کفارہ ادا کرنا ہوگا۔



## چھٹی تراویح

آج کا بیان ساتویں پارے کے ربع سے آٹھویں پارے کے نصف تک کی تلاوت پر مبنی ہے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائینگے کہ میں نے تم کو کس طرح پیدا کیا اور پھر کیسے کیسے معجزے تم کو عطا کئے، اور کیسی کیسی نعمتیں تم کو اور تمہاری ماں کو دی اور کس طرح تمہاری قوم کو نوازا، تو اب تم جو اب دو کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا وہ تم کو اور تمہاری ماں کو خدا بنا لے، وہ جو اب دینگے ہرگز نہیں آپ دلوں کا حال جاننے والے ہیں میں نے آپ کے حکم کے مطابق صرف آپ کی بندگی کا حکم دیا تھا اس کے باوجود اگر لوگوں نے کفر کیا تو اے اللہ آپ انہیں سزا دیں یا معاف فرمادیں ہر بات پر آپ قادر ہیں اور دانا اور بینا ہیں۔

اس کے بعد سورۃ انعام شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار کا وطیرہ ہی یہ ہے کہ وہ پیغمبروں کا مزاق اڑاتے ہیں انہیں جادوگر بتاتے ہیں لیکن اللہ کا دین ان پر مسلط ہو کر رہیگا، جھٹلا نے والوں کا انجام برا ہے اللہ اور بناوٹی خداؤں میں فرق یہ ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے لیتا نہیں، غیر اللہ اپنے پیچاریوں کو رزق دینے کے بجائے الٹا ان سے رزق لینے کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ حضور ﷺ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کافروں کی روگردانی سے پریشان نہ ہو بلکہ صبر کرے، اللہ کی مدد ضرور آپ کو پہنچے گی، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کسی کے اعمال کی جو ابد ہی دوسرے پر نہیں، ہر شخص اپنے اعمال کا جوابدہ ہے، کافروں کو اپنا انجام معلوم ہو جائیگا، اللہ جس دن حشر برپا فرمائینگے اس دن بادشاہی صرف اسی کی ہوگی، وہ دانا اور باخبر ہے،

اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معرفت حق حاصل کرنے کا طریقہ بیان کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ اے اہل قریش جس طرح آج اپنے پیغمبر کو جھٹلا رہے ہو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کا انکار کیا تھا، جس کا انجام برا ہوا اسی طرح تمہارا انجام بھی

برا ہوگا، اے لوگو! اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان گھڑے، اور اسکی آیات کے مقابلہ میں سرکشی کرے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کا وعدہ فرمایا ہے، اور وہ یقیناً آنے والی ہے، ظالم کبھی فلاح نہیں پائینگے، اللہ تعالیٰ حضور ﷺ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ منکرین اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو اب اللہ کے حق میں زبان درازی اور گستاخی کرنے لگے، اللہ کا ارشاد ہی کہ اے محمد ﷺ کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھایا ہے میری نماز میری عبادت میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کیلئے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔

اس سورت میں مندرجہ ذیل ہدایات و تاکیدات ہیں۔

- (۱) اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو!
- (۲) والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو!
- (۳) اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو! رزق دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔
- (۴) بے حیائی اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ پھٹکو!
- (۵) کسی جان کو ہلاک مت کرو! مگر حق کے ساتھ۔
- (۶) ناپ اور تول میں پورا پورا انصاف کرو!
- (۷) بات انصاف کی کرو خواہ معاملہ رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو۔
- (۸) قول و قرار پورا کرو! خواہ اللہ سے ہو یا اس کے بندوں سے، بے شک سزا دینے میں اللہ بہت تیز ہے، اور بہت درگزر کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے۔





## ساتویں تراویح

آج کی تراویح آٹھویں پارے کے نصف سے نویں پارے کے ثلث تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔

سورہ اعراف کے مجموعہ اجزاء پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر مضامین اس سورہ میں معاد یعنی آخرت و نبوت کے متعلق ہیں، جیسا کہ ارشاد باری ہے کہ ”اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ“ کہ اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے کے پیچھے نہ لگو، قرآن ہی کہ پیروی کرو۔

اسی طرح ”فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ“ میں معاد یعنی آخرت کی تحقیق ہے کہ قیامت میں ان لوگوں سے باز پرس ضرور ہوگی جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھا جائیگا کہ انہوں نے فرض کہاں تک انجام دیا، اور لوگوں کی طرف سے انھیں کیا جواب ملا، بلاشبہ لوگوں کو روز قیامت میں میزان کے مرحلے سے ضرور گزرنا ہوگا۔

اس سورہ شریف کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں بتلایا کہ امور حقہ مثلاً رسالت و معاد کی تکذیب و انکار سرکشی ہے، اور سرکشی شیطان کا کام ہے، چنانچہ اس کی طرف اشارہ کرنے کیلئے قصہ شیطان کی عداوت کا بیان فرما کر اس سے احتیاط کی تاکید فرمائی گئی ہے، ارشاد باری ”وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ“ اے لوگو! تمہیں زمین میں اختیار دے کر بسایا، تمہاری پیدائش کے بعد تمہارے آگے فرشتوں سے سجدہ کرا کر تم کو عزت بخشی اور تم کو نعمتوں سے مالا مال کیا مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔

آگے فرمایا اے اولاد آدم اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے

بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ارشاد باری ” اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ “۔ ارشاد باری، اللہ نے حرام کر دیئے ہیں بے شرمی کے کام خواہ وہ کھلے طور پور ہوں یا پوشیدہ طور پر ہوں، اور حرام ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور حرام ہے اللہ کا نام لیکر یا اللہ کی جانب منسوب کر کے کوئی ایسی بات کہنا جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ ” وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ “۔ آگے نافرمانوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد ہے کہ اللہ سے سرکشی کرنے والوں کا جنت میں داخلہ ایسا ہی ناممکن ہے جیسا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں گذر جانا۔ ” اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا بِآيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تَفْتَحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمٰوٰتِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلْجَ الْجَمَلُ فِى سَمِّ الْخِيَاطِ “ لیکن نیک لوگوں کیلئے جنت کی خوشخبری ہے، اے لوگو! تم اللہ کو پکارو خوف و امید کے ساتھ یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ ” اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ “

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متعدد پیغمبروں اور ان کی امتوں کے حالات و واقعات کا ذکر فرمایا اور لوگوں کی سرکشی اور بد اعمالیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے مختلف عذاب نازل ہوئے ان کا بھی ذکر فرمایا ہے، تاکہ لوگ نصیحت و عبرت حاصل کریں اور دعوت رسالت کو قبول کر کے ہدایت پائیں، متعدد عبرت آموز واقعات سننے کے بعد اللہ تعالیٰ حضور ﷺ سے فرماتے ہیں ” وَاِذْ اَخَذْنَا مِنْ نَبِيِّ اٰدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَاشْهَدْنَاهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلْسُتْ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا “ کہ اے نبی لوگوں کو یاد دلا دو کہ ہم نے روز الست تمام انسانی روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا لوگ اب اس معاہدہ کو بھول گئے جو شرک میں مبتلا ہو گئے۔

آگے ارشاد ہے کہ نفس پرستی کی وجہ سے لوگوں کی حالت اس کتے جیسی ہو جاتی ہے جس کی زبان لالچ کی وجہ سے باہر کو لٹکی رہتی ہے، ارشاد باری ہے۔ ” فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ “

ایسے لوگوں کو اللہ نے جہنم کیلئے پیدا کیا ہے کیونکہ ان کے پاس ایسے دل ہیں جن سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں مگر وہ حق راہ دیکھتے نہیں، اور ان کے پاس کان ہیں جن سے سنتے نہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔

اللہ تعالیٰ حضور ﷺ سے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر منکرین آپ کو جادو گر اور مجنون کہے تو آپ اس کی کوئی پرواہ نہ کریں آپ تو یہ فرمادیں کہ میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں، اور جو میری بات مانے ان کو خوش خبری سنانے والا ہوں، آخر میں حضور ﷺ کو تبلیغ کی یہ حکمت خصوصیت کے ساتھ بتائی گئی ہیکہ مخالفین کی زیادتیوں کا مقابلہ صبر اور ضبط سے کریں تاکہ اشتعال کی وجہ سے کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جس سے تبلیغ کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو۔

اللہ تعالیٰ حضور ﷺ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار فرمائیں اور جاہلوں سے نہ الجھیں اے نبی آپ اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے رہیں، رور و کر اور خوف کے ساتھ دل میں بھی اور باوا بلند بھی۔

اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضور ﷺ کی رسالت کو مکمل طور پر قولا و عملا تسلیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آخرت کا یقین عطا فرمائے اور اپنے سے گڑ گڑا کر مانگنے والا بنائے۔ آمین



## آٹھویں تراویح

آج کا بیان نویں پارے کے ثلث سے دسویں پارے کے آخر تک کی تلاوت پر مشتمل ہے، چنانچہ مالِ غنیمت کے بارے میں ارشاد ہے کہ مالِ غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا۔ ”قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ“ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم صاحبِ ایمان ہو۔

ارشاد باری ہے کہ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کا نام آئے تو اس کے جلال اور عظمت کے استحضار سے ان کے دل ڈرجاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ ”إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ“

نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے دیئے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کے رب کے پاس ان کے بڑے درجے ہیں، ان کیلئے مغفرت ہے، رزق کریم ہے اور عزت کی روزی ہے، جنگ بدر میں مسلمانوں کیلئے حق تعالیٰ کی طرف سے تائید و نصرت کا تذکرہ مثلاً فرشتوں کا نزول اور مسلمانوں کو فتح یاب بنانا باوجودیکہ تعداد میں کافر کثیر تھے مگر ان کے دلوں میں اللہ کی طرف سے رعب ڈال دیا گیا جو اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑا مول لے گا اس کیلئے اللہ کی طرف سے شدید عذاب ہے اس کے بعد اللہ جہاد کی تلقین فرماتے ہیں، کہ اے ایمان والو جب تم کافروں سے بھڑو تو خوب جم کر لڑو۔ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمْ الْأَذْبَارَ“ جو شخص میدانِ جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگے گا تو وہ غضبِ الہی کا نشانہ بنے گا پھر پارہ کے آخر میں حکم ہوتا ہے کہ کفار عرب سے اس حد تک لڑو کہ فساد یعنی شرک باقی نہ رہے۔

”وَقَاتِلُواهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ“ پھر اگر وہ شرک سے باز آجائے تو اللہ ان کے کام کو دیکھتا ہے، اگر وہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حمایتی ہے، ظاہر ہی کہ انجام کار تمہارے مقابلہ میں اللہ کی حمایت کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔

دسویں پارے کے آغاز میں مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ جو کچھ مال غنیمت تمہارے ہاتھ آئے اس میں سے پانچواں حصہ اللہ کیلئے اور اس کے رسول کیلئے ہے تاکہ آپ کے قرابت داروں یتیموں اور مسکینوں کے اور مسافر کے کام آئے باقی چار حصے پوری فوج میں تقسیم کردئے جائیں۔

پھر غزوہ بدر کی بعض تفصیل بیان کی گئی ہے اسی کے ضمن میں ارشاد ہے کہ اے مسلمانو! اللہ اور اسکے رسول کا حکم نہ مانو گے اور آپس میں جھگڑو گے تو اسکے نتیجہ میں تم کمزور اور بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائیگی۔

آگے اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ ”وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ“ تیاری کرو کفار سے لڑنے کیلئے جو کچھ تمہارے بس میں ہو جہاں تک ممکن ہو سامان جنگ فراہم کرو اور اس کے بعد اللہ کی مدد اور تائید پر یقین رکھو۔

تم اللہ کی راہ میں جو بھی قربانی دو گے اس کا اللہ کی طرف سے پورا پورا بدلہ ملے گا، ارشاد ہے ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ“ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر تمہارا عزم پختہ ہے اور تم صالح بھی ہو خواہ تم تعداد میں تھوڑے ہی ہو اگر اللہ پر کامل بھروسہ ہے تو یقیناً تم غالب آؤ گے۔

جنگ کے قیدیوں کو محض فدیہ حاصل کرنے کے خاطر قید رکھنا مناسب نہیں، سورۃ کے اختتام پر تشبیہ کی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد اور ہجرت کے پردہ میں مال غنیمت سے زیادہ دینی مقاصد کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔

آخر میں ”وَالْوَالِئَاتُ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ“ سے ایک ضابطہ بیان کیا گیا کہ

ہے وراثت کے حقدار رشتہ دار ہیں۔

اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کی قبولیت توبہ کا ذکر ہے، اس لئے اس سورہ کو سورہ توبہ کہتے ہیں اور اس کو سورہ برآة بھی کہتے ہیں، اسلئے کہ اسمیں کافروں سے بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے۔

اس سورہ میں صلح حدیبیہ کا ذکر فرمایا گیا ہے کفار قریش نے حسد کی بنا پر حدیبیہ کے صلح نامے کو توڑ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اور اسکے رسول کی طرف سے ان مشرکین کے حق میں بے زاری ہے جنہوں نے معاہدہ کو توڑ ڈالا چنانچہ حج اکبر کے دن یہ اعلان کیا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری الذمہ ہیں۔

اس کے بعد حکم ہوا کہ مشرکین کا حرم شریف میں داخلہ ممنوع ہے اور برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف ممنوع قرار دیا گیا مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ اگر تمہارا قریب سے قریب رشتہ دار بھی حالت کفر میں ہو تو ان کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔

اللہ تعالیٰ حضور ﷺ سے ارشاد فرماتے تھے جہاد کے سلسلہ میں لوگوں کے عذر لنگ کو قبول نہ کیجئے یہ منافقین جھوٹے ہیں اور بہانہ تراشتے ہیں۔

اے نبی! فاسق اور منافق کی قسموں کا اعتبار نہ کیجئے ہرگز یہ آپ میں سے نہیں ہیں انہیں جب موقع ملے گا یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائینگے، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک جیسے ہیں ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، ان کی نماز جنازہ تک ممنوع قرار دی گئی ہے۔

سورہ کے درمیان میں زکوٰۃ کے مصارف اور مستحقین متعین فرمادیئے گئے ہیں یہ آٹھ مصارف جو من جانب اللہ مقرر ہوئے ہیں مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) زکوٰۃ غریبوں کیلئے۔

(۲) زکوٰۃ غلاموں کی آزادی کیلئے۔

(۳) محتاجوں کیلئے۔

(۴) زکوٰۃ قرض داروں کی مدد کیلئے۔

(۵) نظام زکوٰۃ کے کارکنوں کیلئے

(۶) زکوٰۃ خدا کی راہ میں۔

(۷) زکوٰۃ تالیفِ قلوب کیلئے۔

(۸) زکوٰۃ مسافروں کی مدد کیلئے۔

مختصر یہ کہ سورۃ توبہ میں

(۱) بعض غزوات اور ان سے متعلق واقعات کا ذکر۔

(۲) مشرکین کے معاہدوں سے دست برداری کا اعلان۔

(۳) ایام حج میں جدال و قتال کی ممانعت۔

(۴) حدود حرم میں کفار و مشرکین کے داخلے پر پابندی۔

(۵) اہل کتاب کو ایمان لانے یا جزیہ دینے کا حکم۔

(۶) جہاد میں سستی کرنے والوں کی مذمت۔

(۷) مصارف زکوٰۃ کا تعین۔

(۸) منافقین کا بیان اور اہل ایمان کی پہچان۔

یہ باتیں اس سورۃ میں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں احکاماتِ الہی سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے، آمین۔

## نویں تراویح

آج کا بیان گیارہویں پارے سے شروع ہو کر بارہویں کے رابع تک کی تلاوت پر مبنی ہے دسویں پارے کے آخر میں ان منافقوں کا ذکر تھا جو اپنے کفر و نفاق کے سبب جہاد میں شرکت سے عذر کر کے بیٹھے رہے انہوں نے حیلے بھانے تراش کر حضور ﷺ کی اجازت لے لی تھی اور کچھ ایسے بھی متکبر منافق تھے جنہوں نے سرے سے کسی اجازت کی ضرورت محسوس نہ کی چنانچہ۔ ”يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ“ سے ان منافقین کا بیان ہے جنہوں نے حضور ﷺ کی جہاد سے واپسی پر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضری دی اور عدم شرکت جہاد کے جھوٹے عذر تراشے حضور ﷺ کو اس صورت حال سے بذریعہ وحی باخبر کرایا گیا اور فرمایا گیا کہ آپ ان سے فرمادیتے کہ فضول اور جھوٹے عذر نہ تراشو، ہم تمہیں سچا نہ سمجھ سکیں گے۔

اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ زکوٰۃ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں اور حضور ﷺ کے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں، کہ موقع ملتے ہیں منحرف ہو جائیں، ایسے لوگوں کا چکر خود ان ہی پر مسلط ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

منافقین کے ذکر کے بعد مومنین کا بیان ہے کہ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت اسلام قبول کی اور وہ نیک لوگ جو ان کے پیچھے آئے اللہ ان سب سے راضی ہوا اور ان کیلئے جنت کی بشارت ہے، اس کے بعد مسجد ضرار کا ذکر ہے، جسے منافقین نے مسلمانوں میں نفاق پیدا کرنے کیلئے تعمیر کیا تھا، اللہ نے اس کی مذمت فرمائی اور وہ مسمار کر دی گئی، اس کے بعد وہ تین صحابہ کا ذکر ہے جنہوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی تھی، ان کا مقاطعہ (بایکٹ) کیا گیا تھا چچاس دن کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما کر معاف کر دیا، اس کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے، اس سورہ میں بھی اسلام کے تین اہم پہلو یعنی توحید، رسالت، اور آخرت کی طرف مشاہدہ کائنات کے ذریعہ



توجہ دلائی گئی اور اس کے ساتھ کچھ عبرت انگیز تاریخی واقعات و قصص کا ذکر کر کے ان مضامین تو حید و رسالت اور آخرت کو ذہن نشین کرایا گیا ہے، چنانچہ فرمان باری ہے کہ قرآن حکمت اور دانش کی کتاب ہے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک آدمی کو تمہاری ہدایت کیلئے پیغمبر بنا کر تمہارے درمیان بھیجا ہے جو ان کی ہدایت قبول کرے گا فلاح پائے گا منکرین کے حق میں کوئی شفاعت کام نہیں دے گی، اس کے بعد اللہ نے دوزخ کے عذاب سے ڈرایا ہے اور جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دی ہے ناشکرے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر ہر وقت اللہ کے حضور میں گڑگڑاتے ہیں، مگر جب اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں اور ان پر فضل فرماتے ہیں تو پھر یہی لوگ ایسے ناشکرے ہو جاتے ہیں گویا ان پر کوئی برا وقت پڑا ہی نہ تھا۔

آخر سورت میں فرمایا گیا کہ اے نبی! آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ تمہارے پاس رب کی طرف سے حق آچکا ہے اب جو سیدھی راہ اختیار کرے گا اس کی راست روی اس کیلئے فلاح کا باعث ہوگی، اور جو گمراہ رہیں گے ان کیلئے ان کی گمراہی تباہی کا سبب بنے گی صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اس کے بعد سورہ ہود شروع ہوتی ہے، اس سورہ میں کچھلی قوموں پر نازل ہونے والے قہروں اور مختلف قسم کے عذابوں اور پھر قیامت کے ہولناک واقعات اور جزاء و سزا کا ذکر خاص انداز میں آیا ہے، آغاز سورہ میں قرآن کی آیات محکم اور صاف صاف سے یہ بیان کیا گیا، پھر آگے چل کر ”وَمَا مِنْ ذَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا“ سے فرمایا گیا کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، پھر کائنات کو پیدا کرنے کی حقیقت بیان کی گئی۔ اس سورہ میں بھی اللہ نے منکروں کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن پیغمبر کی خود ساختہ کتاب ہے تو تم بھی اس جیسی سورتیں تصنیف کر کے لے آؤ، اپنے مددگاروں کو بھی ساتھ میں لے لینا یتھیناً تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ اللہ ہم کو نعمتوں کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، ہر حال میں اللہ سے لو لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، اترانے اور غرور کرنے سے حفاظت فرمائے۔

## دسویں تراویح

آج کا بیان بارہویں پارے کے ربع سے تیرہویں کے نصف تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ والی عَادِ اَحَاهُمْ هُوْدًا سے اللہ نے لوگوں کی عبرت کیلئے حضرت ہود کو قوم کی طرف بھیجے جانے کا ذکر فرمایا، قوم نوح کی طرح قوم عاد نے بھی آواز حق نہ سنا، اور مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً کی خام خیالی میں مبتلا رہے۔ (کہ کون ہے جو قوت میں ہم سے بڑھ کر ہے) وہ اللہ کے آگے بے حقیقت ہو کر رہ گئے، قوم عاد کے بعد قوم ثمود کی سرکشی کا ذکر ہے، وہ بھی بالآخر دردناک عذاب سے دوچار ہوئے پھر قوم لوط کی فحاشی آبرو باختگی اور کھلی بے حیائی کا ذکر ہے یہ قوم بھی اپنی بد کرداری و بد اخلاقی کی پاداش میں پیوند زمیں ہو گئی، پھر حضرت شعیبؑ کے مدین بھیجے اور حضرت موسیٰ کے توحید پیش کرنے اور فرعون کے انکار اور سرکشی کے یاد کرنے، ان واقعات کے ذکر کے بعد اللہ اپنے نبی کو ارشاد فرماتا ہے۔ ”وَكَذٰلِكَ اَخَذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهٰى ظٰلِمَةٌ اِنَّ اَخَذَهَا اِلَيْمٌ شَدِيْدٌ“ تمہارا رب جب کسی ظالم سستی کو پکڑتا ہے تو واقعی اس کی پکڑ اور گرفت بہت سخت اور دردناک ہوتی ہے، اے نبی ہم یہ جو تم کو قبروں کے واقعات سناتے ہیں تو اس طرح ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں تم کو اس طرح حقیقت سے آگاہی ملتی ہے اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بصیرت نصیب ہوتی ہے۔

”وَكَوْكَلًا نَّقْصُ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبِآءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّتُ بِهٖ فُوْاْذِكَ“ آسمانوں اور زمین میں جتنی غیب کی باتیں ان کا علم اللہ ہی کو ہے اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہونگے، اے محمد ﷺ آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ رکھیئے، آپ کا رب جو تم کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے۔

اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے، حضور ﷺ حضرت یوسف کے واقعہ سے

واقف نہ تھے یہودیوں نے بحیثیت نبی آپ کا امتحان لینے کیلئے آپ سے اس قصے کے بارے میں سوال کیا اور بدگمانی سے یہ کہا کہ حضور ﷺ ناواقفیت کی وجہ سے جواب نہیں دے سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہ قصہ حضور ﷺ کی زبان مبارک پر جاری فرما دیا، حضرت یوسفؑ کا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ گیارہ ستارے چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں حضرت یوسفؑ کے سگے سوتیلے گیارہ بھائی تھے اور چاند سورج سے ان کے ماں باپ مراد ہیں حضرت یوسفؑ کے والد حضرت یعقوبؑ نے یہ خواب سن کر ان کو ہدایت کی کہ وہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنائے ورنہ وہ ان کی جان کے دشمن ہو جائینگے، سوتیلے بھائی پہلے ہی سے حسد رکھتے تھے آخر ایک دن ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا اور بات بنا دی کہ بھینٹیا کھا گیا قافلہ والوں نے کنویں میں سے نکال کر مصر کی حکومت کے ایک اعلیٰ افسر کے ہاتھ ان کو بحیثیت غلام فروخت کر دیا اس افسر کی بیوی ان پر عاشق ہو گئی اور بدکاری پر مائل ہوئی، حضرت یوسفؑ کے انکار پر ان کو قید میں ڈال دیا گیا، وہاں قید میں انہیں دو قیدی اور ملے، جن کے خوابوں کی حضرت یوسفؑ نے صحیح تعبیر بتائی ان میں سے جب ایک قیدی نے رہائی پائی تھی تو اس کے ذریعہ تاخیر سے ہی حضرت یوسفؑ کی اس قابلیت کی اطلاع پہنچ گئی، بادشاہ کو بھی اپنے خواب کی تعبیر درکار تھی، حضرت یوسفؑ نے اس کی بھی مشکل حل کر دی پھر کیا تھا بادشاہ ان کا گرویدہ ہو گیا اور ان کو اپنا وزیر خاص بنا لیا، عملاً وہ مصر پر حکومت کر رہے تھے۔

خدا کی مشیت کہ مصر اور اس کے آس پاس کے ملکوں میں قحط پڑ گیا لیکن حضرت یوسفؑ کے مشورے اور حکمت عملی سے مصر میں غلہ جمع کیا ہوا موجود تھا، لوگ مصر غلہ لینے آتے تھے چنانچہ برادران یوسفؑ بھی غلہ لینے آئے حضرت یوسفؑ نے انہیں پہچان لیا اور بلا قیمت غلہ دے کر روانہ کیا اور دوبارہ اپنے چھوٹے علاقے بھائی کو ہمراہ لانے کی تاکید کی، واپسی پر برادران یوسفؑ نے اپنے سامان میں ادا کی ہوئی پونجی واپس دیکھی تو بول اٹھے ”هٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا“ پھر علاقے بھائی کو لیکر ان سب کا دربار یوسفؑ میں دوبارہ آنا اور یوسفؑ کا ایک تدبیر سے اپنے بھائی

کو روک لینا بقیہ بھائیوں کا غلہ لیکر اپنے شہر واپس لوٹنا اور بیٹوں کی جدائی اور فراق غم میں روتے روتے حضرت یعقوبؑ کی آنکھوں کا سفید پڑ جانا جسے قرآن نے ”وَأَيَّصَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ“ سے تعبیر کیا ہے۔ پھر حضرت یوسف کے پاس بھائیوں کا تیسری بار آنا بیان ہوا ہے جب برادران یوسف کو یہ علم ہوا کہ یہ وہی یوسف ہے جسے ہم نے کنویں میں مرنے کیلئے چھوڑا تھا تو ان کے سرندامت سے جھک گئے، یوسفؑ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور مصائب پر صبر کرتا ہے تو اس کا حق اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا۔

پھر انہوں نے یوسفؑ سے معافی چاہی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ”لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ“ تم پر آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں بے مثال اخلاق کا نمونہ پیش فرمایا، بالآخر حضرت یوسف کی خواہش پر حضرت یعقوبؑ مع اہل و عیال مصر میں آ کر حضرت یوسف سے ملے اور سب نے ان کو سجدہ کیا اس طرح حضرت یوسفؑ کے خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔

اختتام سورۃ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انبیاء کے ان واقعات میں سمجھدار لوگوں کیلئے بڑی عبرت ہے اور قرآن جسمیں یہ واقعات درج ہیں مومنوں کیلئے باعث ہدایت و رحمت ہیں، اس کے بعد سورۃ رعد شروع ہوتی ہے اس سورہ میں قرآن مجید کے کلام حق ہونے تو حید و رسالت کے اثبات قیامت کے آنے اور بعثت بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا تفصیلی ذکر اور اس کے ساتھ ہی منکرین حق کیلئے عذاب کی وعید ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کی سرکشی کے باوجود درگزر فرماتا ہے حالانکہ وہ سخت سزا دینے والے بھی ہیں اسے بندوں کے اعمال کی پوری خبر ہے، حاملہ کے پیٹ سے بھی واقف ہے کہ اسمیں کیا بنتا ہے، اور کیا کمی بیشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس اصول قدرت سے آگاہ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک لوگ خود اپنی حالت میں تبدیلی لانے کی صلاحیت و سعی کے اہل نہیں ہوتے ”

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ“

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا

اے لوگو! برائی بھلائی سے دفع کرو آخرت کی نعمتیں تمہارے لئے ہے، اللہ تعالیٰ ہم میں انقلاب مطلوب پیدا فرماوے، ہمارے معاشرہ میں وجود لانے کا ہمیں ذریعہ بنائے، امور خیر کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت نصیب فرمائے۔ آمین۔

الصَّوْمُ لِيْ وَ اَنَا اَجْزِيْ بِهٖ

اَوْ قَالَ اَجْزِيْ بِهٖ

(الحديث القدسي)

اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لئے ہے

اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔

یا فرمایا کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں۔

## گیارہویں تراویح

آج کا بیان تیرہویں پارے کے نصف سے چودہویں پارے کے نصف تک کی تلاوت پر مشتمل ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار پر ان کے کرتوت کی وجہ سے ایک نہ ایک آفت آتی رہتی ہے اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہیگا منکرین بڑی چالیں چلا کرتے ہیں لیکن اصل فیصلہ کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔

سورۂ رعد کے بعد سورۂ ابراہیم شروع ہوتی ہے، اس سورۂ کا آغاز بھی قرآن سے ہوا کہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ تمام لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئیں، ارشاد باری یہ ہے کہ ”کِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ“ اس سورۂ کے آغاز میں رسالت و نبوت کی چند مزید خصوصیات بیان کی گئی ہے اور پھر مضمون تو حید بیان ہوا ہے اثبات تو حید کیلئے حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کے واقعات سے شواہد پیش کئے گئے، تو حید کی فضیلت اور کفر و شرک کی مذمت مثالوں کے ذریعہ واضح کی گئی اس سورۂ میں حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا بھی ذکر ہے ”رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْنَدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعَلِنُ“ جس سے دعا کے یہ آداب معلوم ہوئے کہ دعا گڑ گڑا کر کی جائے اس کے ساتھ اللہ کی حمد بھی بیان کی جائے، سورۂ ابراہیم کے آخری رکوع میں اہل مکہ کو پچھلی قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔

اور انکار اور ضد کی صورت میں قیامت کے ہولناک عذاب سے ڈرایا گیا اخیر میں ارشاد

فرمایا گیا کہ یہ قرآن لوگوں کیلئے احکام پہنچاتا ہے تاکہ اس کے ذریعہ لوگ عذاب سے ڈرائے جائیں، اور لوگ اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ ہی معبودِ برحق ہیں۔

اس کے بعد سورہٴ حجر شروع ہوتی ہے اس میں اللہ نے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے جو حضور کی دعوت دین اور اسلام کا مزاق اڑاتے تھے اور حضور پر دیوانگی کی تہمت لگاتے تھے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے منکرو! تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کا ذکر ہے جو اس نے اپنے نبی پر نازل فرمایا اور یہ کہ اللہ ہی خود اس کا محافظ اور نگہبان ہے ”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ“ اللہ تعالیٰ حضور کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ منکرین کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہوں اور ان کی دھمکیوں کا مطلق اثر نہ لیں جو لوگ بہکے ہوئے ہیں وہ ابلیس کے پیروکار ہیں اور وہ جہنمی ٹھہریں گے اے نبی! لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ رحیم اور درگزر فرمانے والا ہے لیکن ساتھ میں اس کا عذاب سخت اور دردناک بھی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے نبی ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو کفار مکہ کی باتیں سخت ناگوار گذرتی ہے، اور آپ کیلئے تکلیف کا باعث ہوتی ہے ”وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ“ اس کا مداویہ ہے کہ اے نبی اپنے رب کی حمد و تسبیح میں مشغول رہیں اور تا زیست اسی کی عبادت و بندگی میں وقت گزاریں، ”وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ“

اس کے بعد سورہٴ نحل شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ”آتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ“ اللہ کا حکم آچکا تم جلدی نہ مچاؤ اللہ کی ذات پاک ہے تمہارے شرک سے بہت بالا و برتر ہے، نادانو! تم عذاب کا تقاضہ کر رہے ہو یا دور رکھو وہ وقت اب دور نہیں جب تم اپنی سرکشی اور بد اعمالی کی سزا پاؤ گے، تم ناشکر گزار ہو حالانکہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ اس نے تمہارے آرام کیلئے اور تمہاری بار برداری کیلئے طرح طرح کی چیزیں اور جانور پیدا فرمادیئے ہیں، غور کرنے والوں کیلئے ان میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔

اے مشرکوں! ذرہ گھوم پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا اور انکی بستیاں کس طرح

اللہ نے الٹ کر رکھ دی، اللہ جب کسی چیز کو چاہتا ہے کہ وہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے، ”فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ“۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے ساتھ بدسلوکی کے بارے مشرکوں کو تنبیہ فرماتا ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ذلت محسوس کرتے ہو اور اس کو مارے شرم کے ذن کرتے ہو، ”وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ“ اس کے بعد آسمان سے پانی برسائے زمین کو ہرا بھرا کرنے اور چوپایوں کو پیدا کرنے کا ذکر ہے، کس طرح ان کے پیٹ کی چیزوں یعنی گوبر اور لہو کے بیچ سے صاف ستھرا اور خوشگوار دودھ پینے والوں کیلئے اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمایا ہے، ارشاد باری ہے ”نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ“ پھر مختلف پھل اور عمدہ کھانے کی چیزیں پیدا کرنے کا ذکر ہے اور پھر شہد کی مکھی کا پہاڑوں اور درختوں میں چھتے لگانے اور ان سے شہد نکلنے کا ذکر ہے جس شہد کے متعلق قرآن کہتا ہے ”فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ“۔

اپنی نعمتوں کے ذکر کے ذریعہ توحید کے فطری دلائل کے ساتھ تقسیم رزق کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم میں سے بعضوں کو بعض پر رزق کے معاملے میں فضیلت دی اور فرمایا گیا کہ اللہ نے تمہارے واسطے تمہاری قسم سے عورتیں پیدا کیں اور تم کو تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے آئے، اور تمہیں کھانے کو ستھری چیزیں دیں سو کیا جھوٹی باتیں مانتے ہیں، اور اللہ کے فضل کو نہیں مانتے اور پوجتے ہیں اللہ کے سوا کو، ایسوں کو جو مختار نہیں ہے جو لوگ اللہ کا انکار کر کے راہ راست سے لوگوں کو روکیں گے ان کو ان کے عذاب کے سبب سخت عذاب دیا جائیگا۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو مبعوث کریں گے، یہ قرآن پاک ہر چیز کو بیان کرتا ہے تو سامان ہدایت بھی ہے و حجت بھی اور مسلمانوں کیلئے خوشخبری بھی، اللہ پاک ہمیں نعمتوں کا استحضار نصیب فرما کر عقیدہ توحید میں پختگی نصیب فرمائے۔ آمین۔



## بارہویں تراویح

آج کا بیان چودہویں پارے کے ثلث سے پندرہویں پارے کے آخر تک کی تلاوت پڑنی ہے، ارشاد خداوندی ہے ”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ“ اللہ حکم کرتا ہے انصاف کرنے اور بھلائی کرنے کا اور قرابت والوں کو دینے کا اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور نامعقول کام سے، اور تم کو سمجھاتا ہے تاکہ تم یاد رکھو، پھر عہد کو پورا کرنے اور قسموں کو نہ توڑنے اور رشوت نہ لینے کا حکم دیا گیا ہے، اور جس مرف و عورت نے نیک کام کیا اور مؤمن ہو تو اللہ اس کو ایک اچھی زندگی عطا فرمائینگے اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے عوض اجر دینگے، آگے ارشاد یہ ہے کہ اے مسلمانو! جب تم قرآن کی تلاوت شروع کیا کرو تو شیطان سے بچنے کیلئے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اے نبی آپ لوگوں کو دعوت دیں تو نہایت حکمت اور بہترین طریقہ پر دیا کریں، ”أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ“ اور مخالفین کی ہر بات پر رنج نہ کریں اللہ آپ کا حامی اور مددگار ہے اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل شروع ہوتی ہے اللہ نے حضور ﷺ کو معراج شریف کا شرف بخشا اور وہاں ان کو اپنی قدرت کے بڑے بڑے مشاہدات کرائے، یہ پہلا موقع تھا کہ پانچ وقت کی نماز اوقات کی پابندی کے ساتھ فرض ہوئی، اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے وہ چودہ نکات بھی عطا فرمائے جس سے مستقبل کے مسلم معاشرہ کی مہذب ترین شکل عمل میں آئے۔

- (۱) عبادت صرف اللہ کی کرو!
- (۲) والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو!
- (۳) رشتہ داروں مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو!

- (۴) فضول خرچی نہ کرو!
- (۵) اگر کسی کی حاجت پوری نہ کر سکو تو نرمی سے جواب دے دو!
- (۶) کنجوسی کرو اور نہ فضول خرچی کرو، اعتدال کی راہ اختیار کرو!
- (۷) اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو!
- (۸) زنا کے قریب تک نہ پھٹکو!
- (۹) بغیر قانونی جواز کے کسی کو قتل نہ کرو!
- (۱۰) حدود قانونی سے باہر یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکو!
- (۱۱) قول و قرار کی پابندی کرو!
- (۱۲) ناپ تول میں کمی دیشی ہرگز نہ کرو!
- (۱۳) جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو! وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ.
- (۱۴) غرور و تکبر کی چال نہ چلو ” وَلَا تَمَسَّ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا“.

یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ نے اپنے نبی پر وحی فرمائی ارشاد باری ہے کہ ” جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا“ حق آگیا اور باطل مٹ گیا باطل تو دراصل مٹنے والا ہی ہے، اے نبی! میرے بندوں سے کہہ دو کہ بات اس طرح کیا کرو کہ بہتر اور پسندیدہ ہو حضور ﷺ پر نماز تہجد اسی وقت فرض ہوئی، پھر حضرت موسیٰ اور ان کے معجزات اور فرعون کی مخالفت اور اس کے انجام بد کا ذکر ہے، پھر فرمایا گیا کہ قرآن پاک حق کے ساتھ نازل ہوا ہے اور جو اہل علم ہیں تو وہ قرآن سن کر ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے اور یہ قرآن یعنی ان کا سننا ان کا خشوع اور بڑھادیتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں فرمایا گیا کہ آپ فرما دیجئے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اس کا کوئی شریک سلطنت ہے، اور نہ کسی کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اسکی خوب بڑائی بیان کیجئے۔ اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوتی ہے اس سورہ میں اصحاب کہف، ملاقات خضر و موسیٰ، اور ذوالقرنین کے

واقعات کا ذکر ہے، آج کی تراویح میں اصحاب کہف اور ملاقات خضر و موسیٰ کا ذکر تلاوت کے مطابق کیا جائیگا، قصہ ذو القرنین بعد میں بیان ہوگا، (انشاء اللہ)

اصحاب کہف کا واقعہ یہ ہے کہ چند نوجوان اپنے ظالم معاشرہ سے تنگ آ کر بستی سے نکل کھڑے ہوئے اور پہاڑ کے دامن میں ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان پر دراز نیند طاری کر دی، غار کے منہ پر ان کا کتا محافظت کرتا رہا برسوں کے بعد جب جابر حکومت تبدیل ہو چکی تھی اور معاشرہ بدل چکا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند سے بیدار فرمایا اور غار کے حالات سے ان کو واقف کیا جس کے بعد اسی غار میں ان پر موت طاری کر دی گئی اب وہ قیامت کو اٹھائے جائینگے، اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات کا ذکر ہے مشیت الہی کا نظام جن مصالح ربی پر چل رہا ہے اس کی قدرت کی نشانیاں موسیٰ کو دکھائی گئی حضرت خضر اچھی بھلی کشتیوں کو ناکارہ کر دیتے ہیں پھر اچھے خاصے کو دتے کھیلتے لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں، اور کچھ ناشکرے کج خلق لوگوں کی گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دے دیتے ہیں موسیٰ سے یہ باتیں برداشت نہیں ہوئی اعتراض فرماتے ہیں۔ بالآخر حضرت خضر مشیت ایزدی سے انہیں آگاہ کر کے ان کی تسلی کر دیتے ہیں اللہ کی طرف سے اس عمل غیبی کا انجام خیر ہے شرنہیں، درمیان سورت میں ارشاد باری ہے کہ ہم نے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے۔

”وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا“۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو ہدایات ان کے پاس آتی ہیں اسمیں جھگڑتے ہیں اور ماننے سے انکار کرتے ہیں، قرآن میں ٹھیک ٹھیک سیدھی سیدھی باتیں ہیں تاکہ عقل رکھنے والے اور آیات میں غور و فکر کرنے والے ہدایت پائیں، منجملہ ان باتوں کے واقعہ کہف اور واقعہ خضر و موسیٰ بھی ہیں تاکہ عبرت حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں چشم بینا دل گریاں نصیب فرمائے۔ آمین۔

## تیرہویں تراویح

آج کا بیان سولہویں پارے کے شروع سے سترہویں پارے کے ربع تک کی تلاوت پر مبنی ہے، سورہ کہف میں تیسرا واقعہ ذوالقرنین بادشاہ کا ہے، وہ بڑا صاحب اقتدار اور وسیع سلطنت کا مالک تھا لیکن ساتھ ہی نیک اور عادل بھی تھا اس کے دور حکومت میں یاجوج و ماجوج کی قومیں فساد اور بد امنی کا باعث بنی ہوئی تھیں، اس نے ان کی روک تھام کیلئے حد فاصل کے طور پر ایک دیوار لوہے اور تانبے کی آمیزش سے تعمیر کرائی لیکن لوگوں کو متنبہ کرایا کہ لوگو! گو یہ دیوار اللہ کی رحمت سے مضبوط اور مستحکم ہے لیکن ہر فانی شی کی طرح یہ بھی فانی اور مٹنے والی شی ہے اس لئے نیک عمل کرو اور بندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ارشاد ہے ”فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا“

اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے یہ سورہ حضرت زکریاؑ کے ذکر سے شروع ہوتی ہے، اللہ نے بڑھاپے کے عالم میں ان کو اولاد عطا فرمائی تھی۔

ان کے بیٹے حضرت یحییٰؑ بہت نرم دل اور بڑی زبردست قوت فیصلہ کے مالک تھے، پھر حضرت مریمؑ کے یہاں بغیر باپ کے معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰؑ کی پیدائش کا ذکر ہے اور بھی کئی پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، مقصود یہ ہے کہ تمام انبیاء ایک ہی دین لیکر آئے تھے اور وہی دین حضور ﷺ لیکر تشریف لائے تھے لیکن نبیوں کے گزر جانے کے بعد امتوں نے اپنے اندر بگاڑ پیدا کر لیا اور مشرک ہو گئیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے یہ انتہائی گمراہ کن ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے اس کے بعد سورہ طہ شروع ہوتی ہے اور ارشاد باری ہیکہ اے نبی! قرآن اس لئے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ کو پریشانی میں مبتلا کر دیا جائے ”مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى“ اور نہ یہ کہا گیا کہ نہ ماننے والوں سے منوا کر ہی چھوڑیں

قرآن تو بس ایک نصیحت ہے اور یاد دہانی کرنے والی کتاب ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا چاہے وہ سیدھا ہو جائے، موسیٰ اور کوہ طور کا واقعہ موسیٰ اور معجزہ عصا اور ید بیضاء، موسیٰ کی فرعون کے گھر میں پرورش کا ذکر، موسیٰ کا دربار فرعون میں پہنچنا اور جادو گرں سے مقابلہ کا ذکر، موسیٰ کا شہر سے نکل جانا، فرعون کا تعاقب اور بالآخر اپنے لشکر سمیت غرق ہونا، بنی اسرائیل کا وعدہ خلافیوں اور نافرمانیوں میں حد سے بڑھ جانا، حتیٰ کہ پگھڑے کو خدا بنا لینا، قیامت کا ذکر نماز کی تلقین فرما کر اخیر میں فرمایا گیا کہ دنیا میں کافروں کو عیش و عشرت کے جو سامان دئے گئے ہیں ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو! اللہ کی دی ہوئی روزی بہتر اور باقی رہنے والی ہے، سورۃ انبیاء کا آغاز ہوتا ہے اس سورۃ میں مسلسل کئی انبیاء کا تذکرہ ہے اس لئے اس کو سورۃ الانبیاء کہا گیا، روز قیامت اور حساب و کتاب کی تیاری سے غفلت پر تنبیہ کی گئی ہے۔

قرآن کے ذریعہ لوگوں کو ہر قسم کی نصیحت و فہمائش کر دی گئی ہے، اب سب اپنا اپنا برا بھلا انجام سوچ لیں، اللہ کے غصہ اور غضب سے بچانے والا کوئی نہیں، فرضی معبود اپنے پوجنے والوں کی کیا مدد کریں گے، قیامت کے دن رتی رتی کا حساب ہوگا اگر رائی برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو وہ بھی تولا جائیگا، اللہ کا عذاب آخری اور فیصلہ کن ہوگا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین



## چودھویں تراویح

آج کا بیان سترہویں پارے کے رابع سے شروع ہو کر اٹھارہویں پارے کے نصف تک کی تلاوت پر مشتمل ہے، سورہ انبیاء کی بقیہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ سے حضرت عیسیٰؑ تک متعدد پیغمبروں کا ذکر فرمایا اور پھر حضور ﷺ کا ذکر مبارک اس خاص وصف کے ساتھ فرمایا ہے کہ اے محمد ﷺ ہم نے تمہیں سارے جہاں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ارشاد باری ہے ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ مضمون توحید پر سورہ انبیاء کا اختتام ہو رہا ہے کہ ”قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ“ کہ تمہارا رب معبود ایک ہے سو اس کی بندگی کرو اس کے بعد سورہ حج کا آغاز ہوتا ہے اس سورہ شریفہ کی ابتداء بھی قیامت سے فرمائی گئی ہے ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ“ اس سورہ میں پہلے لوگوں کو کہا گیا ہے اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جس روز تم اس زلزلہ کو دیکھو گے تو اس روز یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی ہیبت اور دہشت کے مارے اپنے دودھ پیتے کو بھول جائیگی اور حاملہ اپنا دان پورے ہونے سے پہلے اپنا حمل ڈال دیگی، پھر کمزور یقین مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنے ایمان و اعمال میں چٹنگی پیدا کرو، ورنہ بے یقینی سے تمہاری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائے گی، جو کھلا خسارہ ہے، اس کے بعد اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اب تمہارا نام مسلم ہے یہی نام حضرت ابراہیمؑ کی امت میں بھی تھا، پھر اس کے بعد بیت اللہ کا ذکر فرمایا گیا ہے اور مطالبہ کی گیا کہ ”وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ“ اور طواف کریں اس قدیم گھر کا، پھر مناسک حج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ”وَمَنْ يُعْظَمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ“ جو کوئی دین خدا کی ان یادگاروں کی عظمت کریگا، یعنی احکام الہی کی پوری پابندی کریگا تو ایسا دل کے تقوے سے ہوتا ہے،

پھر حج کے موقع پر جانوروں کی قربانی کے سلسلے میں ارشاد باری ہے کہ ”لَنْ يَنَالَ  
اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَائَهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ“ جو قربانی تم دیتے ہو اس کا خون اور  
گوشت ہم تک نہیں پہنچتا ہمارے پاس تو تمہارا تقویٰ اور پرہیزگاری پہنچتی ہے، پھر سورۃ  
کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو! رکوع کرو! سجدہ کرو! اور بندگی کرو اپنے رب کی اور  
بھلائی کرو تا کہ تم اپنی فلاح کو پہنچو اور اللہ کے کاموں میں خوب کوشش کیا کرو جیسا کرنے کا حکم  
ہے ”وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ“ تم پر دین میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں، تم اپنے باپ  
ابراہیمؑ کی ملت پر قائم رہو، اس نے تمہارا لقب مسلمان رکھا ہے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی  
تا کہ تمہارے لئے رسول اللہ ﷺ گواہ ہو سو تم نماز کی پابندی رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ کی رسی  
کو مضبوطی سے تھامے رہو وہ تمہارا کارساز ہے، سو کیا اچھا کارساز ہے اور کیسا اچھا مددگار۔ ”هُوَ  
مَوْلَاكُمْ نِعَمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعَمَ النَّصِيرِ۔“

اس کے بعد سورۃ مؤمنون کا آغاز ان مسلمانوں کے ذکر سے ہوتا ہے جو صحیح عقائد اور  
ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت اس کے احکام کی تعمیل اور تمام انسانوں کے حقوق ادا  
کرتے ہیں، فرمایا کہ ”قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ“  
عبادت کی ادائیگی خلوص سے کیا کرو، امانتوں اور عہد و پیمان کی حفاظت کرو، بے حیائی کے  
کاموں سے دور رہو یہی دنیا اور آخرت کی فلاح کی راہ ہے، اوصاف مؤمنین کے ذکر کے بعد  
اللہ نے اثبات توحید کیلئے ایک کھلی نشانی یعنی تحقیق انسانی کا ذکر فرمایا، اور ہر آسمان زمین پانی  
نباتات چوپایوں اور ان کے پیٹ سے نکلنے والی چیزیں یعنی دودھ اور اس کے بہت سے فائدے  
کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ پر استدلال کر کے لوگوں کو دعوت دی  
تا کہ وہ توحید کا اقرار کرے اور راہ عبادت میں گامزن ہوں، پھر حضرت نوحؑ کا ذکر کر کے  
فہمائش کی گئی کہ نجات اتباع رسول میں ہے، اہل ایمان غرور سے اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرتے  
ہیں، ان کے دل اس خیال سے کانپتے ہیں انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے وہ نیکی کے کاموں

میں مسابقت کرتے ہیں، ”اُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ“ آگے ارشاد باری ہیکہ ہم کسی شخص پر اس کی ہمت سے زیادہ کام کا بار نہیں ڈالتے، اے نبی! یہ مخالفین اپنی عادت سے باز آنے والے نہیں یہاں تک کہ ان کو موت آجائیگی، سو اس وقت پچھتانا شروع کریں گے، مگر یہ آخری وقت کا پچھتاوا کام نہ آئیگا۔ اس کے بعد چوبیس نمبر کی سورۃ ہے جو سورۃ نور سے موسوم ہے اس سورۃ میں مسلم معاشرہ کو اخلاقی اقدار عطا فرمائی گئی، اور معاشرتی ضرورتوں کیلئے اخلاقی و قانونی احکام و ہدایات نازل فرمائی ہیں چنانچہ سورۃ کا خلاصہ بارہ نکات میں کیا جا رہا ہے۔

- (۱) زنا کی سزا خواہ مرد ہو یا عورت سو کوڑے ہیں۔
- (۲) بدکاروں کا خواہ مرد ہو یا عورت مقاطعہ (بایکٹ) کیا جائے اور ان سے نکاح بھی نہ جائے۔
- (۳) زنا کا بہتان اور ثبوت نہ پیش کرنے کی سزا اسی کوڑے ہیں۔
- (۴) بیوی اور شوہر میں سے اگر ایک دوسرے پر بدکاری کا الزام لگائے اور ثبوت موجود نہ ہو تو چار مرتبہ اللہ کی قسم کھائیں کہ وہ سچے ہیں اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اگر وہ جھوٹے ہوں تو ان پر اللہ کی لعنت ہو۔

(۵) نیک مرد نیک عورتوں کیلئے اور نیک عورتیں نیک مردوں کیلئے ہیں۔ ”الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ“ اسی طرح خبیث مردوں اور خبیث عورتوں کا ساتھ ہے، تو جو فحش باتوں کی تشہیر کرے وہ لوگ سزا کے مستوجب ہیں۔

- (۶) جب تک ملزم کے خلاف ثبوت نہ مل جائے وہ بے گناہ سمجھا جائے۔
- (۷) بغیر اجازت ایک دوسرے کے گھروں میں داخل نہ ہوں۔
- (۸) مرد بھی اور عورتیں بھی نہ ایک دوسرے کو گھور گھور کر دیکھے اور نہ تاک جھانک کرے۔
- (۹) عورتیں سنگھار کر کے نامحرموں کے سامنے نہ آئیں اور ان کو اپنا سینہ ڈھانک کر رکھنا



چاہئے۔

(۱۰) اور اسلام میں مجرذندگی ناپسند ہے۔

(۱۱) خلوت کے اوقات میں گھروں کے اندر کمروں میں بڑے تو کیا بچے بھی داخل نہ ہوں

(۱۲) اپنا بچ اور معذور آدمی اگر کھانے کی چیز کسی کے یہاں سے بغیر اجازت کھالے تو اس کا

شمار چوری اور خیانت میں نہ ہوگا۔

اور پھر دوسرے رکوع میں واقعہ اُفک ہے جس میں منافقین نے حضور ﷺ کو تکلیف

پہنچانے کیلئے حضرت بی بی عائشہ صدیقہؓ کی بہتان تراشی کی تھی جس کی اللہ نے سورہ نور میں

تردید فرمائی ہے، اور بے ہودہ بکواس کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے، اور تنبیہ فرمائی کہ اگر تم

مؤمن ہو تو آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیمات اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق

نصیب فرمائے اور بدکاری فحش کاری بد نظری تعصب بہتان تراشی جیسی معصیت سے حفاظت

فرمائے۔ آمین۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الصِّيَامُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا.

فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ

روزہ (گناہوں و شیطین سے) ڈھال ہے

جب تک کہ وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔

(النسائی وابن ماجہ)

## پندرہویں تراویح

آج کا بیان اٹھارہویں پارے کے نصف سے انیسویں پارے کے ثلث تک کی تلاوت پر مشتمل ہے پہلے مومنوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو جو شیطان کے نقش قدم کی اتباع کرے گا تو وہ بے حیائی اور نامعقول ہی کام کرنے کو کہے گا۔

پھر فرمایا کہ ہم نے تم لوگوں کی ہدایت کے واسطے تمہارے پاس واضح احکامات بھیجے ہیں اور جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کی بعض حکایات اور خدا سے ڈرنے والوں کیلئے نصیحت کی باتیں بھیجیں ہیں ارشادِ ربانی ہے۔ ”وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ“۔

اللہ تو زمین اور آسمان کا نور ہے، مومن تو وہی ہے جو اللہ کے نور کو اپنے لئے رہنمائی سمجھے اور دل سے رسول کی اتباع کرے، رسول کی مخالفت تم کو کسی فتنہ میں گرفتار کر سکتی ہے۔

اب سورہ فرقان شروع ہوتی ہے جس کے آغاز میں فرمایا گیا کہ بڑی عالیشان ہے وہ ذات جس نے یہ فیصلہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اپنے خاص بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تاکہ وہ تمام دنیا جہاں والوں کیلئے ایمان نہ لانے کی صورت میں عذابِ الہی سے ڈرانے والے ہوں، اخیر میں ارشادِ باری یہ ہے کہ اے نبی ﷺ تمہارا رب تمہاری مدد کیلئے کافی ہے، آپ لوگوں سے کہدیں کہ میں تبلیغِ دین کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا میری اجرت تو بس یہ ہے کہ تم سیدھا راستہ اختیار کرو اور ایک ایسے بندے بنو جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں جہالت کے کاموں سے بچتے ہیں اور اگر کوئی جاہل ان کے منہ آئے تو اس کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ ”وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا“۔

مومن کیلئے اعلیٰ اجر مقدر ہے اور جھٹلانے والوں کو اتنی سخت سزا ملے گی کہ جان چھڑانی مشکل ہوگی، اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوتی ہے جس میں حضرت موسیٰؑ اور فرعون کا واقعہ، حضرت ابراہیمؑ کی دعوتِ اسلامی قوم نوح، و عاد، و ثمود کی سرکشی اور ہلاکت کم ناپنے تو لنے والوں کا انجام بدشاعروں کی ہرزہ سرائی اور پریشان خیالی اور بعض سینات کا ذکر ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی اگر کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے تو تم ان کے غم میں اپنی جان کو مت گھلاؤ! بے شک ہم ایسی نشانیاں نازل کر سکتے ہیں جن کے آگے منکروں کی گردنیں جھک جائیں گے لیکن چونکہ یہ لوگ حق کو اب جھٹلا چکے ہیں اس لئے انھیں اپنے کئے کی سزا عنقریب مل جائیگی۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰؑ اور دیگر کئی انبیاء مثلاً حضرت ابراہیمؑ، حضرت نوحؑ، حضرت ہودؑ، حضرت صالحؑ، حضرت لوطؑ، حضرت شعیبؑ، تفریباسات واقعات کا ذکر فرماتے ہیں، کیونکہ ہر واقعہ میں رہنمائی اور ہدایت پانے والوں کیلئے نشانیاں ہیں لیکن منکروں میں سے اکثر نہیں مانتے انھیں جلد اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا وہ مزاق اڑا رہے ہیں، قرآن حکیم کو کیوں نہیں دیکھتے جو خود ان کی زبان میں نازل فرمایا گیا۔ اے مخاطبوا! کیا تم کو نبی ﷺ اور انکے ساتھی ایسے ہی نظر آتے ہیں جیسے شاعر اور انکے ساتھی ہوتے ہیں کیا واقعی قرآن مجید تم کو کسی جن یا شاعر کا کلام معلوم ہوتا ہے؟ شاعروں کی پیروی تو بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، اے لوگو کیا تم نہیں دیکھتے کہ شعراء تو ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔


”وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُونَ الْغَاوُونَ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ“

ہاں بلکہ ان شعراء میں سے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کئے یعنی خلاف شرع نہ ان کا قول ہے نہ فعل اور ان کے اشعار میں بے ہودہ مضامین نہیں ہیں اور انھوں نے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا ہے تو ایسے لوگ مستثنیات میں سے ہیں اسی پر سورہ شعراء کا اختتام اور بعد ازاں سورہ نمل کا آغاز ہو رہا ہے، سورہ نمل کا آج ایک رکوع تلاوت کیا گیا ہے، پوری سورہ میں قرآن

ہدایت و خوشخبری ہے اہل ایمان کیلئے اس مناسبت سے حضرت موسیٰؑ کی پیغمبری مل جانے کا ذکر حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ کا تذکرہ اور قوم شمود و لوط پر عذاب آنے کا ذکر ہے چنانچہ پہلے رکوع میں ارشاد ہی کہ قرآن مجید سرچشمہ ہدایت اور مخزن بشارت ہے ایمان لانے والوں کیلئے۔

”تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ. هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ“ ”مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں ہم نے منکرین کے اعمال ان کی اپنی نظر میں مرغوب بنا دیئے ہیں تاکہ وہ جہل مرکب میں مبتلا ہو کر مستقل خسارے میں رہیں۔

”أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ“ وہ بلاشبہ قرآن مجید ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ ”وَإِنَّكَ لَتَلْقَىٰ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ“ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو اتباع نبوی کا ذوق سلیم نصیب فرمائے۔ ہر نافرمانی سے عموماً اور خصوصاً ایسی نافرمانی سے حفاظت فرمائے جو قوموں اور بستوں بلکہ ملکوں کی تباہی اور عذاب کا سبب بنی، قرآن کریم کو سرچشمہ ہدایت اور دستور ہدایت ماننے کی توفیق صالح نصیب فرمائے۔ آمین۔



## سولہویں تراویح

آج کی تراویح میں انیسویں پارے کے ثلث سے بیسویں پارے کے اختتام تک کی تلاوت ہوئی ہے، سورہ نمل میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ حضرت داؤد و سلیمانؑ کا ذکر بایں الفاظ شروع فرمایا ہے، ”وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا“ اللہ نے خصوصیت کے ساتھ انہیں جانوروں کی بولیوں کی سمجھ عطا فرمائی تھی، ”عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ“ اس طرح جنات، اور انسان اور پرندوں پر پورا پورا قابو عطا فرمایا تھا۔ ان واقعات میں سمجھداروں کیلئے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ ارشاد باری ہیکہ اے نبی! لوگوں کو بتلا دیجئے کہ اللہ کے سوا زمین اور آسمانوں میں کسی کو غیب کا علم نہیں ہے اور یہ بات صرف اللہ کے علم میں ہیکہ لوگ کب اٹھائے جائینگے، ارشاد باری صاف صاف ہیکہ ”قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ“ کفار کے دل سے آخرت کا یقین ختم ہو گیا ہے اور وہ حقیقت کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں ”بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا“ بلاشبہ اللہ جانتا ہے کہ ایسے لوگوں کے سینے میں کیا چھپا ہوا ہے ”وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ“ پھر آخر سورۃ میں قیام قیامت کی منظر کشی بڑی عبرت آمیز انداز میں فرمائی گئی ہے، کہ جس دن صور پھونکا جائیگا تو سب گھبرا جائینگے، اور سب اللہ کے سامنے دبے جھکے حاضر ہونگے۔ ”وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دُخْرَيْنَ“ اور پہاڑ بادلوں کی طرح اڑے اڑے پھریں گے، یہ بات بالکل یقینی ہیکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب افعال کی پوری پوری خبر ہے، اور جو شخص نیکی کریگا اس کو اس سے بہتر بدلہ ملیگا اور جو کوئی برائی کریگا وہ اوندھے منہ آگ میں ڈالا جائیگا، ”وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ“ پھر حضور کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ”وَمَا رَبُّكَ

بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ“ کہ تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ پھر سورہ قصص کی ابتدا ہو رہی ہے جس میں حضرت موسیٰؑ کی بعثت، فرعون کی ہلاکت کا پورا واقعہ پھر قارون کی بے پایاں دولت اس کا غرور و تکبر پھر اس کا مع اپنی تمام دولت کے زمین میں دھنس جانے کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ حضور ﷺ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم یہ معلومات آپ کو اس لئے پہنچاتے ہیں کہ آپ نافرمانوں کو متنبہ کر دیں شاید کہ وہ ہوش میں آجائیں، اور ایمان لے آئیں، ورنہ اپنی بد اعمالی کے بدولت ضرور وہ کسی وبال میں گرفتار ہو جائینگے۔ منکرین کی بڑے اچھوتے اور انکے انداز میں فہمائش کی گئی کہ اے نبی آپ ان منکرین سے پوچھئے کہ انھوں نے کبھی اس حقیقت پر غور کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیشہ کیلئے ان پر رات کی تاریکی طاری فرمادیں، تو اللہ کے سوا ہے کوئی جو ان کو اس تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اسلوب قرآن ملاحظہ ہو۔

”قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ“ اسی طرح اس کے برعکس اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ دن کی روشنی کو برقرار رکھے تو اللہ کے سوا کون ہے جو انہیں سکون بخش رات نصیب کرے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے دن اور رات بنائے تاکہ روزی تلاش کرے اور سکون حاصل کرے، اور اپنے رب کے شکر گزار بندے بنیں، اے نبی لوگوں کی ہدایت کا کام انجام دیتے رہیں! اور مخالفین کی مزاحمت کی فکر نہ کریں دنیا کی ہر شئی فانی ہے، اسی مناسبت سے واقعہ قارون کو عبرت پذیری کیلئے پیش فرمایا گیا کہ وہ مال و متاع کی کثرت کے سبب مغرور ہو گیا تھا، حالانکہ اس کی برادری نے اس کو وعظ و نصیحت کی کہ تو اس مال و دولت پر نہ اترا، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، ”إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ“۔

ایک بار قارون اپنی تمام تر آرائش و زیبائش کے ساتھ اپنی برادری کے لوگوں کے سامنے نکلا چنانچہ اس کی حالت دیکھ کر دنیا پرست اور ہائے دنیا کے خوگر بول اٹھے کہ ”يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ“ جس کا حاصل یہ ہیکہ کیا خوب ہوتا کہ ہم کو بھی وہ ساز و سامان

ومتاع ملا ہوتا جیسا کہ قارون کو ملا ہے، لیکن اس کے بالمقابل جن لوگوں کو دینی فہم عطا ہوا تھا وہ ان حریص لوگوں سے کہنے لگے اے لوگو! تم اس دنیائے فانی پر فریفتہ ہوتے ہو؟ حالانکہ اللہ کے گھر کا ثواب اس سے ہزار درجے بہتر ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے قارون اور اسکے تکبر اور حقوق واجبہ کی ادائیگی کے انکار کے سبب زمین میں دھنسا دیا اور اس کے کبر و نخوت کو چکنا چور کر دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ باقی ہے اور اس کے علاوہ سب فانی ہے، چنانچہ مضمون توحید پر سورۃ کی تکمیل فرمائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پکارو! اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اللہ باقی ہے اور اسکے علاوہ سب فانی ہے اس کی فرماوائی ہر جگہ ہے سب کو اس کی طرف لوٹنا ہے، ”وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ“ اس کے بعد سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے جس میں مخلصین مؤمنین اور منافقین صادقین اور کاذبین کے درمیان فرق بڑے حسین پیرایہ میں ذکر کیا گیا ہے اور انبیاء سابقین کا تذکرہ بھی ہے، چنانچہ ارشاد الہی ہے کہ کیا لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان کے صرف یہ کہہ دینے سے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے، ”أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ“ لوگو! تم پر صبر کا وقت آتا ہے تو وہ تمہارے صبر و تحمل کا امتحان ہوتا ہے، اس طرح ہم اہل ایمان کو بھی جان لیتے ہیں اور جھوٹوں کو بھی پرکھ لیتے ہیں، یہ سچ اور حق ہے کہ ہم نے تمہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے لیکن اگر وہ تمہیں شرک پر مجبور کریں اور تمہارے ایمان میں خلل ڈالیں تو تم ان کا کہا مت مانو ارشاد نبوی بھی ایسا ہی ہے۔ ”لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ“، کافر مؤمنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریق کی پیروی کرو ہم تمہارے گناہ سمیٹ لینگے۔ ”وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ“ وہ جھوٹے ہیں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھایگا اس کے بعد والے رکوع میں حضرت نوحؑ کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ وہ نوسو پچاس برس تک اپنی امت کے درمیان فرائض پیغمبری ادا کرتے رہے مگر قوم نافرمان تھی اور بالآخر عذاب طوفان میں

مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیمؑ، حضرت لوطؑ اور حضرت شعیبؑ کی امتوں کی ہلاکتوں کا ذکر ہے، ان کی گمراہی بد اعمالی اور فحش حرکات کی وجہ سے عذاب الہی نازل ہوا اور ہلاکت کا سبب بنے ان واقعات میں مومنین اور عقل رکھنے والوں کیلئے نصیحت ہے ”اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَا يَآءَةَ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ“ اللہ تعالیٰ خوف الہی کی دولت سے مالا مال فرمائے تو وضع انکساری عجز فروتنی سے ہمکنار فرمائے تکبر و فخر و مباہات سے حفاظت فرمائے، دولت توحید سے سرشار فرمائے عذاب سے حفاظت فرمائے، مقام ابتلاء و امتحان میں صبر و ثبات قدمی نصیب فرمائے۔ آمین۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُعْتَكِفِ

هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ وَيَجْرِي لَهٗ مِنَ الْحَسَنَاتِ  
كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔

اللہ کے رسول ﷺ نے معتکف کے بارے میں

ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے

اور اس کیلئے (معتکف کے باہر کی نیکیاں) اتنی ہی

لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کیلئے۔

(مشکوٰۃ شریف)



## سترہویں تراویح

اب تک سو پارے کی ترتیب سے ۲۰ پارے الحمد للہ مکمل ہوئے، اب آج سے ایک پارہ تراویح میں سنایا جا رہا ہے، چنانچہ آج کا خلاصہ ۲۱ ویں پارے پر مشتمل ہے جو سورہ عنکبوت کے آخری تین رکوع، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ، اور سورہ احزاب کے ابتدائی تین رکوع پر مشتمل ہے گویا کل ۱۹ رکوع تلاوت کئے گئے۔

ارشاد ربانی ”اَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ“ اے نبی! تلاوت قرآن مجید کیجئے اور نماز قائم کیا کیجئے بلاشبہ نماز فحش باتوں اور برے کاموں سے روکتی ہے اہل کتاب سے مباحثہ میں خوش اسلوبی اختیار کریں تاکہ آپ کی بات ان کے دل میں اتر جائے، اور ان سے کہیئے کہ اے اہل کتاب! ہم جس طرح اپنی کتاب ایمان رکھتے ہیں اسی طرح تمہاری کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے اے نبی آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں پھر یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ قرآن آپ نے خود تصنیف کر لیا ہے قرآن تو وحی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔

ارشاد باری ہے کہ اے میرے وہ بندو! جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے ڈراور خوف کی کوئی بات نہیں ہے جہاں چاہو وہاں جا کر میری بندگی کر سکتے ہو۔ ”يَعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ“ آخر لوٹ کر تم سب کو میرے ہی پاس آنا ہے آگے چل کر مضمون جنت کو ذکر کرتے ہوئے مسئلہ رزق کو اٹھایا گیا ہے جس میں جدوجہد کرنے والوں کی ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ”وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ“

اس کے بعد سورہ روم شروع ہوتی ہے، اللہ کا ارشاد ہے کہ اگرچہ اس وقت ایران کے

خلاف جنگ میں رومیوں کو شکست ہوگئی لیکن چند سال کے اندر وہ پھر غالب آجائینگے اور مسلمانوں کو خوشی نصیب ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے جن پر غور کر کے انسان توحید الہی کے لئے مائل ہو جاتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں عقل والوں کیلئے ہیں، اللہ کا دین سیدھا اور صحیح ہے اس میں تغیر و تبدل نہیں ہے لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے۔

اے لوگو! سود لین دین سے تمہاری دولت بڑھتی نہیں کیونکہ حرام کمائی میں برکت نہیں ہوتی خیر و برکت تو اس مال میں ہوتی ہے جس میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ ”وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ رَبًّا لِيُرَبُّوا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يُرَبُّوْا عِنْدَ اللّٰهِ“

اے نبی! نہ ماننے والوں کو خواہ تم کسی طرح سمجھاؤ وہ ماننے والے نہیں ان کے دلوں پر جہالت کی مہریں لگا دی گئی ہیں، ”كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ“ گویا پوری سورہ روم میں تین مرکزی مضامین ہیں (۱) مقصد تخلیق موجودات۔ (۲) دلائل توحید۔ (۳) اسلام ایک فطرت ہے، پھر سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے ابتداء میں فرمایا گیا قرآن ہدایت و رحمت ہے نیکی کرنے والوں کیلئے۔ پھر تقابلان کا ذکر کیا گیا ہے جو لوہو و لعب کی باتوں کے طلب گار ہیں فرمایا کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی یاد غافل کرنے والی ہیں، پھر آثار فطرت کے ذریعہ پیغام توحید دیا گیا، پھر لقمان اور لقمان کی دانائی کا ذکر کیا گیا۔ ”وَلَقَدْ اَتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحَكِيْمَةَ اَنْ اَشْكُرْ لِلّٰهِ“ ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی تھی کہ وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا، جو شخص شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کیلئے کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناشکر گزار کی ناشکری سے بے نیاز ہے، لقمان خود بھی شرک سے پاک تھے اور اس نے اپنی پوری اولاد کو بھی اس لعنت سے بچایا تھا۔ اے لوگو! اللہ کے غضب سے بچو اور روز حساب سے ڈرو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی مدد نہ کر سکے گا غرور کی چال نہ چلو اور لوگوں سے منہ پھیر کر نفرت سے بات نہ کرو اور نرمی سے گفتگو کرو کیونکہ آوازوں میں سب سے کرخت آواز گدھے کی ہوتی ہے، پھر مخلوق پر اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات کا ذکر کر کے دوسری مرتبہ توحید کی دعوت دی گئی، آخر سورہ میں فرمایا گیا کہ

قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ ہی کو ہے اور وہی اپنے علم کے موافق میندھ برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ حاملہ کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا عمل کریگا اور یہ بھی کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ ” اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ “ اللہ ہی سب جاننے والا خبر رکھنے والا ہے اس کے بعد سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے جس میں حقانیت قرآن اور اشرافیت انسان کو خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ کیسی عجیب منطوق ہے کہ ہم اس وسیع کائنات کو تخلیق کرنے کی قدرت رکھتے ہیں لیکن قرآن کو بقول منکرین نہیں نازل کر سکتے ہیں، تو یہ لوگ حماقت کی وجہ سے اپنے رب کی نشانیوں کے منکر ہو جاتے ہیں، کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جن کے پاس ان کے رب کی ہدایت پہنچے اور وہ اس سے منہ پھیر لیں ایسے لوگوں سے ضرور بدلہ لیا جائیگا۔ ” فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاَنْتَظِرُ اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُوْنَ “۔

پھر سورہ احزاب شروع ہوتی ہے، ارشاد خداوندی ہے کہ آپ کافروں اور منکروں کا کہا نہ مائیں آپ کے پروردگار کی طرف سے جو حکم آپ کو وحی کیا جاتا ہے اس پر چلئے پھر فرمایا کہ ہم نے کسی شخص کے دل میں دو دل نہیں رکھے اور کسی کی بیوی کو ماں کا درجہ نہیں دیا ہے، اور منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے کے برابر نہیں ہوتے ہیں، منہ بولے بیٹے اپنے اصلی باپ کی نسبت سے پہچانے جانے چاہئے۔ ” اُدْعُوْهُمْ لِاَبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ “ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں ان سے نکاح حرام ہے۔

جو شخص جہاد کے ڈر سے موت کے ڈر سے بھاگتا ہے اور وہ ایمان سے خالی ہے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع فرمادے گا۔ ” اُولٰٓئِكَ لَمْ يُوْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ “ اخیر میں فرمایا گیا کہ اے لوگو! اللہ کا رسول تمہارے لئے بہترین نمونہ ہیں ان کی پیروی کرو۔ ” لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ “ سچا مومن اللہ تعالیٰ اور آخرت پر پورا پورا یقین رکھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیمات اسلامیہ کا خوگر بنائے اللہ تعالیٰ پر توکل، اپنے کو اسلامی ڈھانچے میں ڈھالنے کی ہمت نصیب فرمائے اور کامل اتباع رسول کی توفیق ہو۔

## اٹھارہویں تراویح

آج کی تراویح ۲۲ روئ پارے کی تلاوت پر مشتمل ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج سے رنجیدہ اور ملول ہونے کا واقعہ ارشاد ہے، اے نبی کی بیویو! تمہارا مرتبہ عام عورتوں سے بلند ہے تم بات سیدھی کیا کرو اور زیب زینت کی نمائش نہ کیا کرو اور قرآن وسنت میں جو اللہ کے احکام اور دانائی کی باتیں ہیں انہیں سیکھو یاد کرو اور دوسروں کو سکھاؤ تکلیفیں اٹھا کر اور سختیاں چھیل کر اللہ کے حکموں پر چلنے اور قائم رہنے والوں کی فضیلت کا ذکر ہے عورت ہو یا مرد اللہ کے یہاں کسی کی محنت و کوشش ضائع نہیں کی جاتی پھر عام لوگوں کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ محمد ﷺ مردوں میں کسی کے باپ نہیں، اور اللہ کے آخری نبی ہیں ان کے بعد اب اور کوئی نبی نہیں آئیگا۔ ”مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ“ ہم نے اپنے نبی کو ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے اور ہم اور ہمارے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو!

اس کے بعد نکاح، طلاق، عدت اور پردے کے بعض معاشرتی احکام نازل فرمائے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ اللہ سے ڈر کر درست اور سیدھی بات کہنے والے کو بہترین اور مقبول عام کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ کی اور رسول کی پیروی میں ہی حقیقی کامیابی کا راز پنہاں ہے، جو بوجھ آسمان وزمین اور پہاڑوں سے نہ اٹھ سکتا تھا وہ انسان نے اپنے ناتواں کاندھوں پر اٹھالیا۔ ”إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ مشرکین منافقین پر لعنت فرمائی ہے اور اللہ کی صفت مغفرت و رحمت پر اس سورۃ کا اختتام ہوا۔

اس کے بعد سورۃ سبأ شروع ہوتی ہے اللہ کی ذات پاک ہر تعریف کے لائق ہے وہ دانا اور باخبر ہے منکرین کی یہ دلیل جہالت پر مبنی ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی سے ان پر اللہ کا

عذاب کیوں نہیں ٹوٹ پڑتا۔ اے نبی ﷺ انہیں خبردار کر دیجئے کہ اللہ کا عذاب ان پر اتر کر رہے گا وہ بہکے ہوئے ہیں ہم چاہیں تو کچھلی معتبوب امتوں کی طرح زمین دوز کر دیں اور ان پر پتھر کی بارش برسائیں ایمان والوں کیلئے اسمیں اللہ کی نشانیاں ہیں۔

گذشتہ انبیاء کے واقعات کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارشاد ہوا ہم نے داؤد کیلئے لوہے کو نرم بنا دیا تھا کہ وہ اپنے لئے سامان تیار کریں پہاڑ اور پرندان کے تابع کر دیئے تھے، اسی طرح سلیمان کیلئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور ہوا اور تخت کو انکے تابع کر دیا تھا، اہل سبا پر ان کی ناشکری اور کفران نعمت کی بارش میں عذاب نازل کیا اور انھیں سیلاب سے ہلاک کر دیا تھا، اس کے بعد سورہ فاطر شروع ہوتی، فرمایا کہ اللہ نے بغیر کسی نموبے کے آسمان وزمین کو پیدا کیا، ہم نے فرشتوں کو اپنا پیغام رساں مقرر کیا ہے بعض فرشتوں کے بازو ہیں بعض کے تین اور بعض کے چار ہم جس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں انہیں کوئی بند نہیں کر سکتا اور جس پر بند کر دیتے ہیں انہیں کوئی کھول نہیں سکتا۔ ”مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا“۔

آگے فرمایا کہ لوگو! تم شیطان کے مکر و فریب سے بچو وہ تمہارے بد اعمال تم کو خوشنما کر کے دکھاتا ہے تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، لوگو! تم اپنے مال میں سے جو کچھ بھی خیرات کرتے ہو اللہ تم کو اس کا پورا پورا اجر دیتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ غنی ہے اور تعریف کے لائق ہے، ہاں بے شک تم اللہ کے محتاج ہو اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے اگر وہ لوگوں کو ان کی بد اعمالی پر گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک تنفس بھی زندہ باقی نہ رہتا مگر وہ اپنے بندوں کو ایک مقرر وقت تک کیلئے مہلت دیتا ہے۔

اس کے بعد سورہ یس شروع ہوتی ہے اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے نبی! ہم نے تمہیں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور تم پر قرآن اس لئے نازل فرمایا گیا ہے کہ تم لوگوں کو ہدایت پہنچا دو، ہر چند ان میں اکثر ایسے ہیں جن کی عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور انہیں نصیحت کرنا یا نہ کرنا سب برابر ہے، نصیحت اور ہدایت سے تو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں جو بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں اور ایسوں کی پیروی کرتے ہیں جو اپنی خدمات کا صلہ نہیں مانگتے، قرآن کا فرمان ہے ”اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ“۔

## انیسویں تراویح

آج کا بیان تیسویں پارے کے متعلق ہے بقیہ سورہ یٰسین، سورہ صافات، سورہ صّٰحّٰہ اور سورہ زمر کی تلاوت آج کی گئی ہے، ارشاد باری ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔

لوگوں کی یہ حالت قابل افسوس ہے کہ ان کے پاس جو پیغمبر بھی آتا ہے یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو جھٹلاتے ہیں، وہ کیوں بھولتے ہیں کہ کتنی ہی نافرمان امتیں ان سے پہلے ہلاک کی جا چکی ہیں ایک دن سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ”الْمَ یَرَوٰکُمْ اَھْلَکُمْۢمَآ قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوٰنِ اَنَّهُمْ اِلَیْہِمۡ لَا یَرْجِعُوْنَ۔ وَاِنْ کُلٌّ لَّمَّا جَمِیْعٌ لَّدَیْنَا مُحْضَرُوْنَ“ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کتنی ہی تخلیقی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، آخرت کے عذاب سے ڈرایا ہے اور نیک لوگوں کیلئے جنت کے عیش و عشرت کی خوش خبری بایں الفاظ دی گئی ہے کہ ”اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْیَوْمَ فِی شُغْلٍ فَاکْہُوْنَ“ اہل جنت بے شک اس دن جنت میں خوش دل ہونگے آخر میں ارشاد ہے پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس کے بعد سورہ صافات شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے کہ ساری کائنات کے مالک و مختار وہی ہیں اور اس کا نظام کائنات شیطانی مداخلت سے محفوظ ہے، روز قیامت منکرین مع اپنے جھوٹے معبودوں کے دوزخ کا ایندھن بنیں گے، مجرموں کی یہی سزا ہے۔

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیلؑ کی قربانی کا ذکر فرمایا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا جسمیں باپ اور بیٹا دونوں کامیاب ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک ذبیحہ بدلے میں دے کر حضرت اسماعیلؑ کو بچا لیا اور حضرت ابراہیمؑ کی یہ سنت ہمیشہ کیلئے نسلوں میں جاری کر دی گئی ہے۔

”وَ اِنَّ یُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِیْنَ“ سے حضرت یونسؑ کا واقعہ ہے کہ وہ بغیر اللہ کی

اجازت کے بستی والوں سے خفا ہو کر دریا کے سفر پر چلے گئے تھے ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ پھر مچھلی کے پیٹ میں ہی انھوں نے اللہ کے حضور میں توبہ کی جو قبول ہوئی اور مچھلی نے ان کو خشکی پر اگل دیا۔

اس کے بعد سورہ ص - شروع ہوتی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے مشرکین مکہ تکبر اور ضد میں مبتلا تھے کہ انہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا اور باتیں بناتے ہوئے یکبارگی حضور ﷺ کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے، ارشاد ہوا کہ اس میں تعجب کی کون سی بات ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک پیغمبر ان کی ہدایت کیلئے مبعوث فرمایا ہے۔ کیا منکرین نہیں سمجھتے کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی نافرمان قوموں کو ایسی حرکت پر ہلاک کر چکے ہیں، اے نبی! جو ناروا باتیں یہ منکر بناتے ہیں آپ ان پر صبر کیجئے۔

پھر داودؑ کا واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ ان کو اللہ نے بہترین قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی انہوں نے ایک تنازعہ کا فیصلہ فرمایا تھا مگر اللہ کی طرف سے ان کا ایک امتحان تھا جس کا فیصلہ کرتے ہی ان کو احساس ہو گیا۔ مجبوراً سجدے میں گر گئے توبہ کی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔

پھر ایوبؑ کی سخت بیماری اور ان کے صبر کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے اسی طرح اور کئی پیغمبروں کے واقعات بیان فرمائے گئے ہیں، آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کو ہم نے قیامت تک کیلئے مہلت دیدی ہے وہ بہکائے گا ضرور مگر اللہ کے خالص بندے اس کے فریب میں نہیں آئیں گے۔

اس کے سورہ زمر شروع ہوتی ہے ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹے اور کافر ہوں، اللہ کسی کو اپنا بیٹا نہیں بناتا وہ واحد اور غالب ہے وہ لوگوں سے بے نیاز ہے ہاں اسے شکر گزار بندے پسند ہیں ہر شخص اپنا حساب دے گا اور کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھایگا، سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، قرآن نصیحت اور ہدایت کیلئے نازل فرمایا گیا ہے اور اسمیں ایسے مضامین بیان کئے گئے ہیں جن میں ذرہ سی کجی نہیں تاکہ گمراہ لوگ راہ راست پر آجائیں اور برے انجام سے بچیں۔

## بیسویں تراویح

آج کا بیان چوبیسویں پارے کی تلاوت پڑھنی ہے ارشادِ باری ہے کہ 'فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ'۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ لگائے اور سچی بات کو جھٹلائے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جھنم ہے اور حق کی تصدیق کرنے والوں کا انعام اللہ کے پاس ہے اپنے بندوں کیلئے اللہ کی مدد کافی ہے۔ اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ۔

اللہ نے قرآن سب ہی انسانوں کی ہدایت کیلئے نازل فرمایا ہے جو سیدھی راہ اختیار کرے گا وہ اپنے فائدے کیلئے کریگا، اور جو راہ سے بھٹک جائیگا اس کے بعد بھٹکنے کا وبال خود اسی پر ہوگا، پیغمبر پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔

کیا لوگ نہیں جانتے کہ رزق کی تنگی اور کشادگی سب اللہ کی طرف سے ہے، منکرین اب بھی توبہ کر لیں اور اللہ کے فرمانبردار بندے بن جائیں، اللہ غفور رحیم ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اس کے بعد سورہ مؤمن شروع ہوتی ہے، قرآن مقدس خدائے عزیز و عظیم کی طرف سے نازل شدہ ہے، اللہ گناہ بخشنے والے توبہ قبول کرنے والے اور سخت سزا دینے والے ہیں۔ قدرت والے ہیں اس کے سوا کوئی خدا نہیں اس کے پاس سب کو جانا ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔

آیات قرآنیہ میں کفار جھگڑا کرتے ہیں مسلمانوں کو ان کی وقتی شان و شوکت کے فریب میں نہیں آنا چاہئے، کفار بالآخر ہماری گرفت میں آئیں گے اور جھنم میں ایندھن بنیں گے۔

اے مسلمانو! تم اللہ کو پکارو اور شرک سے بچے رہو خواہ تمہارا یہ عمل کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، اللہ اپنے پیغمبروں کو اس لئے بھیجتا ہے کہ لوگ خبردار ہو جائیں اور سخت دن سے



ڈریں جب ان کا سب کیا کرایا ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائیگا، وہ انصاف کا دن ہوگا اور ہر شخص اپنے کئے کا بدلہ پائیگا، کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، وہاں نافرمانوں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ شفاعت کرنے والا، اللہ کا فیصلہ بے لاگ ہوگا۔

اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اپنے پیغمبروں کی بھی اور ان پر ایمان لانے والوں کی بھی اس دنیا میں مدد فرماتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد فرمائیں گے۔ ”إِنَّا لَنَنْصُرُ رَسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ“۔ اس لئے بہتر یہی ہے کہ اے لوگو! اللہ کی پناہ مانگو، یاد رکھو کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح ایمان دار اور بدکار برابر نہیں ہو سکتے مگر لوگ کم ہی سمجھتے ہیں۔

اس کے بعد سورہ حَمَّ السَّجْدِ شروع ہوتی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سمجھداروں کیلئے قرآن مجید اچھے اعمال کی وجہ سے خوش خبری اور بے اعمال کی سزا کا خوف دلانے والی کتاب ہے۔

اے نبی! لوگوں کو بتادیتے کہ میں تم ہی جیسا ایک بشر ہوں لیکن فرق یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کی وحی نازل فرمائی جاتی ہے جس کی وجہ میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ اللہ واحد ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اسی پر ایمان لاؤ، اپنے برے اعمال سے توبہ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، آخرت پر پورا پورا یقین رکھو، جہاں روز حساب تمہارے تمام اعضاء تمہارے اچھے برے اعمال کی گواہی دیں گے۔

اے مسلمانو! اگر شیطان تمہیں برائی پر اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو وہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ ہی جانتا ہے، عبادت کے لائق صرف اسکی ذات پاک ہے۔

# اکیسویں تراویح

آج کا بیان پچیسویں پارے کی تلاوت کے متعلق ہے ارشاد حق جل مجدہ ہے کہ قیامت کا علم کہ وہ کب آئیگی صرف اللہ کو ہے انسان کیسا ناشکرا ہے جب اللہ اسے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو یہ غرور کر کے اکڑ کے چلنے لگتا ہے اور جب اس پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگتا۔ ”وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْبِجَانِيهِ. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوقْ دُعَاءِ عَرِيضٍ“ جو لوگ قیامت کے برپا ہونے کے بارے میں شک کرتے ہیں وہ یہ حقیقت خوب سمجھ لیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے بعد سورہ شوریٰ شروع ہوتی ہے، ارشاد ہوا کہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے ہم وحی کے ذریعہ سے پیغمبروں کو اپنی کتاب کا علم دیتے ہیں تو تم شک کرتے ہو اور شرک میں مبتلا ہوتے ہو، تو اے مشرک! تمہارا گناہ اس قدر سنگین ہے ہیکہ اگر آسمان تم پر پھٹ پڑے تو کچھ بعید نہیں، منکر میں خبردار رہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے یہاں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ آگے ارشاد ہیکہ اے نبی! لوگوں سے کہہ دو کہ تبلیغ دین کے کام کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، البتہ قربت داری کا حق ضرور چاہتا ہوں تاکہ ستیا نہ جاؤں، بھلائی کرنے والوں کیلئے بھلائی کا اجر اللہ کے ذمہ ہے جو شخص بھی صبر کرے اور درگزر سے کام لے تو یہ بڑی ہمت اور حوصلہ کی بات ہے کسی بشر کا یہ مرتبہ نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، وہ تو وحی کے ذریعہ یا پردے کی اوٹ سے بات فرماتا ہے۔

اس کے بعد سورہ زخرف شروع ہوتی ہے ارشاد باری ہیکہ مشرک اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے وحی کا نزول رک جائیگا، لیکن اللہ نے شرارت پسندوں کے فتنوں کی وجہ سے نہ کبھی پیغمبر بھیجنے بند کئے اور نہ وحی کا نزول رکا بلکہ اللہ اللہ پر دازول کو ہلاک کیا گیا، اللہ کے نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کائنات میں الگ الگ خدا ہے، نہ اس کے یہاں کوئی ایسا

شفاعت کرنے والا ہے جو جان بوجھ کر گمراہوں کو عذاب سے بچائے اللہ پاک ہے ان سب جاہلانہ نسبتوں سے جو یہ نادان لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کے بعد سورہ دخان شروع ہوتی ہے اللہ کا ارشاد ہیکہ ” اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِيْنَ “ ہم نے قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا یہ ایسی رات ہیکہ جسمیں ہر امر کی بابت حکیمانہ فیصلے صادر فرمائے جاتے ہیں، قرآن کے سننے اور سمجھنے میں اللہ کی رحمت شامل ہے، بشرطیکہ لوگ پختہ یقین رکھتے ہوں ہر جگہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے، زندگی اور موت اسی کی طرف سے ہے، ان لوگوں کی اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے اب جبکہ عذاب نازل ہو گیا تو بلبلارہے ہیں کہ اگر عذاب دور ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔

اللہ فرماتا ہیکہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر عذاب ٹل بھی جائے تب بھی کفر کرنے لگیں گے، یہ عذاب سے سبق لینے والے نہیں، فیصلہ کیلئے قیامت کا دن مقرر ہے، جہاں گنہگاروں کیلئے زقوم (ٹھور) کے درخت کی غذا ہوگی۔ ” اِنَّ شَجْرَةَ الزَّقُوْمِ . طَعَامُ الْاٰثِيْمِ . اور کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا۔

اس کے بعد سورہ جاثیہ شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات عالم میں اپنی قدرت کی کتنی ہی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، انسان اور دیگر جانوروں کی تخلیق رات اور دن کا با ترتیب آنا جانازمین میں قوت نمو، ہواؤں کے رخ کا تبدیل ہونا، دریاؤں کی روانی پر قابو اور ان میں کشتی رانی، جو کچھ زمین میں ہے ان سب کو انسان کے کام پر مامور کر دینے میں اللہ کی قدرت کی وافر نشانیاں ہیں، بشرطیکہ لوگ غور کرے۔

پس تعریف اس اللہ ہی کیلئے ہے جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا پروردگار ہے وہ غالب بھی ہے اور دانا بھی، فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعٰلَمِيْنَ . وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ . اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کامل معرفت نصیب فرما کر دولت یقین سے مالا مال فرمائے آمین۔

## بائیسویں تراویح

آج کا بیان ۲۶ پارے کی تلاوت کے متعلق ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے کائناتِ عالم کو ایک مقرر مدت تک کیلئے تخلیق فرمایا ہے، نظام کائنات ہمارا حکیمانہ نظام ہے، مگر کافر حق کو جھٹلانے سے باز نہیں آتے۔

ارشاد باری ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی ماں اس کو حمل سے پیدائش تک اور پیدائش سے اس کے سیانے ہونے تک کتنی مشقتیں جھیل کر پالتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی تک پہنچ جاتا ہے، اگر وہ سیدھی راہ پر ہوتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہو کر اس کے فرمانبردار بندوں میں شامل ہوتا ہے اور اللہ اس کے نیک اعمال قبول فرما کر اس کی کمزوریوں کو معاف فرمادیتا ہے جب کہ نافرمان اولاد والدین سے جھگڑتی ہے ایسے لوگوں پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔

اس کے بعد اللہ نے جنات کا وہ واقعہ بیان فرمایا ہے جبکہ وہ حضور ﷺ کی زبان مبارک سے تلاوت قرآن سن کر اپنی قوم کو مژدہ یعنی خوشخبری سنانے گئے۔

اس کے بعد سورہ محمد شروع ہوتی ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں جو خود بھی کفر میں مبتلا ہوں، اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکے، جب کہ ایمان لانے والوں اور دین کی ہدایت پر عمل کرنے والوں کی حالت اللہ سنوار دیتا ہے ارشاد باری ہے کہ ”كَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ“۔

پھر جہاد کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ کفار سے اگر مقابلہ ہو جائے تو اس وقت قتال کیا جائے کہ فریق مخالف ہتھیار ڈال دے، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لانے اور ہدایت پانے کے بعد جہاد سے گریز کرتے ہیں وہ شیطان کے بہکائے ہوئے ہیں، کیونکہ شیطان لوگوں کو ان کے

برے اعمال اور خوشنما بنا کر دکھاتا ہے، انہیں لمبی عمر کا فریب دیتا ہے، بالآخر ان کے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات میں غور کرو! تاکہ تمہارے دل و دماغ روشن ہو جائیں۔

اس کے بعد سورہ فتح شروع ہوتی ہے اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے صلح نامہ حدیبیہ کو مسلمانوں کیلئے ایک بڑی فتح ارشاد فرمایا۔ ارشاد ہوا جن لوگوں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں دراصل خدا سے بیعت کی ہے، البتہ عہد کو توڑنے والے اور جہاد سے منہ موڑنے والے عذاب کے مستحق ہیں، ہاں معذوروں کو معافی ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی آپس میں رحم دل اور کفار کے حق میں نہایت سخت ہیں۔ ”مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشَدَّ اَوْ عَلٰى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ الْخ“

اس کے بعد سورہ حجرات شروع ہوتی ہے یہ سورہ مبارکہ اخلاقی تعلیم سے معمور ہے مسلمانوں کو آداب مجلس و خوش گفتاری کی تہذیب سکھلائی گئی ہے خاص طور پر یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ نبی کی مجلس اور نبی کے حجرات کے آداب و احترام کا پورا پورا لحاظ رکھا جائے ورنہ نیک اعمال بھی ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے اسی وجہ سے مومنوں کو آپس کے معاملات میں بھی تہذیب اخلاق، نیک دلی، خیر اندیشی، اور خوش گوئی سے کام لینے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، غیبت کو مردار کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے، اس کے بعد سورہ ق شروع ہوتی ہے، ارشاد ہوا کہ اے لوگو! ہم تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ہم نے تمہارا نامہ اعمال لکھنے کیلئے تم پر دو فرشتے مقرر کر دیئے ہیں، یہ اعمال نامے روز حساب میں پیش ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ ذاریات شروع ہوتی ہے، پھر ارشاد ہوا کہ قیامت ضرور برپا ہوگی اور کفار اپنے کئے کی سزا پائیں گے، اور پرہیزگار لوگ جنت کی نعمتوں کا لطف حاصل کریں گے، اہل ایمان رات کے تھوڑے حصے میں سوتے ہیں، اور اوقات سحر میں اللہ کی بخشش طلب کرتے ہیں، اور اپنے مال سے مانگنے والے نہ مانگنے والے دونوں کی مدد کرتے ہیں، اس کے بعد کئی پیغمبروں کے واقعات مجھلا بیان فرمائے گئے ہیں۔

## تیسویں تراویح

آج کا بیان ستائیسویں پارے کی تلاوت پر مبنی ہے۔ ارشاد باری ہے کہ ”قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ“ پہلے سے حضرت ابراہیمؑ کے فرشتوں کے بشکل انسان آنے کا اور بیٹے اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری کا ہے، اب حضرت ابراہیمؑ کے دریافت کرنے پر کہ اے ملائکہ تمہارا مقدمہ آمد کیا ہے؟ تو جواباً فرشتوں نے کہا کہ ہم مجرمین پر پتھر برسوانے کیلئے بھیجے گئے ہیں گویا قوم لوطؑ پر عذاب نازل کرنے پر مامور ہوئے ہیں پھر قوم موسیٰؑ اور فرعون کا ذکر فرمایا گیا اس کے بعد قوم عاد و ثمود اور آخر میں قوم نوحؑ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے نیز توحید و رسالت کا اثبات کرنے کے بعد مقصد تخلیق انسانی کو بایں الفاظ تعبیر فرمایا گیا کہ ”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“ کہ ہم نے جنوں اور کسی انسانوں کو اسلئے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری بندگی کریں، ہم سب کو رزق دینے والے ہیں اور کسی سے بھی ہم رزق کے طالب نہیں، اس کے بعد سورہ طور شروع ہوتی ہے، منکرین قیامت کو تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ وہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ آسمان و زمین لرز رہے ہوں گے، پہاڑ اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے، کفار کو دوزخ کی طرف ڈھکیلا جا رہا ہوگا وہ دن جھٹلانے والوں کیلئے سخت عذاب کا دن ہوگا، نادان اپنے نصیحت کرنے والے اور ہدایت چاہنے والے پیغمبر کو دکھ پہنچاتے ہیں، اور ان کے متعلق بے بنیاد باتیں کرتے ہیں، دراصل منکرین فطرتاً ہی شریر، اے نبی ﷺ! آپ صبر کیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔

اس کے بعد سورہ نجم شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبیؐ کے معراج شریف کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، کہ پورے سفر میں نہیں بھولے اور نہ بھٹکے، آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوئے کہ صرف دو کمان کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم، اللہ نے آپ کو ایسی راز و نیاز کی باتیں

کی جس سے کوئی دوسرا شخص واقف نہیں، اللہ کی قدرتی نشانیاں اس یقین کامل کے ساتھ مشاہدہ فرمائی کہ آپ کی چشم مبارک نہ جھپکی اور نہ ادھر ادھر بھٹکی۔

ارشاد باری ہی کہ اے لوگو! تم سفر معراج کی صداقت پر اپنے پیغمبر سے جھگڑتے ہو، یاد رکھو! تمہارا پیغمبر تم تک صرف وہی باتیں پہنچاتا ہے جن کی ہم ان کو وحی فرماتے ہیں، وہ اپنے نطق خواہش سے اپنے منہ سے کوئی بات نہیں نکالتے، ”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ“ دل سے باتیں گھڑنا کافروں کی سرشت ہے، ہمارا پیغمبر وہم و گمان پر نہیں چلتا۔ اس کے بعد سورہ قمر شروع ہوتی ہے حضور پر نور ﷺ کے معجزہ شق القمر کو بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعہ کو کفار کی شکست کی نشانی قرار دیا گیا ہے، وہ نبی کو جادوگر خیال کرتے ہیں یقیناً وہ اپنی روش کو بدلنے والے نہیں، عنقریب وہ شکست کھا کر پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔

اس کے بعد سورہ رحمن شروع ہوتی ہے جسمیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا بیان ہے، اللہ کی نعمتوں کا ادراک و احساس اور استحضار کروا کر بار بار فرمایا گیا ”فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ“ نعمت قرآن، نعمت علم، تخلیق آدم اور قوت گویائی کائناتی اور انسان کی نفسی اور آفاتی نعمتوں کا ذکر کر کے منعم یعنی نعمت دینے والے کی پہچان کرائی گئی، انسان کا فانی ہونا اور روز قیامت جزاء و سزا کا ذکر کر کے اللہ کے باقی ہونے کو فرمایا گیا، ”وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ“۔

اسکے بعد سورہ واقعہ میں قیامت برپا ہونے میں کوئی شک نہیں اس روز نیک لوگوں کے اعمال نامے ان کے سیدھے ہاتھ میں ہونگے اور گنہگاروں کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں ہونگے، بد اعمالوں کی غذا جہنم کا زہریلا درخت اور کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا، جھٹلانے والے یاد رکھیں کہ قرآن اللہ کی بڑی نعمت ہے اور اس کا مقام بلند و بالا ہے اور وہ لوح محفوظ میں درج ہے ”إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ“۔

اس کے بعد سورہ حدید شروع ہوتی ہے ارشاد باری ہے کہ کائنات عالم میں جتنی بھی

مخلوق ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ غالب و دانا ہے۔ اے مسلمانو! خرچ کرنے میں بخل نہ کرو، اللہ کی راہ میں دینا گویا اللہ کو قرض دینا ہے جو دس گنا تم کو واپس ملتا ہے، نیک لوگ نہ نقصان کی صورت میں واویلا کرتے ہیں اور نہ فائدے کی حالت میں اتراتے ہیں اور شیخی مارتے پھرتے ہیں، انہی لوگوں میں اعمال کے اعتبار سے صدیق اور شہید بھی ہوتے ہیں، اہل کتاب خوب سمجھ لیں کہ فضل و کرم صرف اللہ کی اختیاری بات ہے وہ جسے چاہے جتنا عطاء فرمادے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا

غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -

فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جو شخص شب قدر میں

ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام (نماز و عبادت) کرے گا

اس کے پیچھلے تمام (صغیرہ گناہ) معاف کر دئے جائیں گے۔

(بخاری و مسلم)



## چوبیسویں تراویح

آج کا بیان ۲۸ ویں پارے کی تلاوت پر مشتمل ہے ارشاد باری ہے کبھی کسی حال میں بھی بیوی کو ماں کہہ کر مخاطب کرنا بڑی نامعقول بات ہے۔ جب تک اس حماقت کا مقررہ کفارہ ادا نہیں کیا جائیگا بیوی شوہر پر حرام رہیگی، اس کا کفارہ ایک باندی یا غلام کا آزاد کرنا یا دو مہینے متواتر روزے رکھنا، یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔

اس کے بعد آداب مجلس کی تعلیم دی گئی ہے کہ آپس کی سرگوشیوں میں پیغمبرؐ کی مخالفت اور گناہ وزیادتی کی باتیں نہ کیا کریں۔ کانا پھوسی اور سازش شیطانی فعل ہے محفل کی نشست و برخاست میں آداب کو ملحوظ رکھنا چاہئے۔

اس کے بعد سورہ حشر شروع ہوتی ہے، ارشاد ہوا کہ سچے اور ایماندار وہ لوگ ہیں جو اپنے پیغمبر اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں اور باوجود خود حاکم ہونے کے اس کی دستگیری پر اپنا دل تنگ نہیں کرتے بلکہ خوش دل رہتے ہیں، برخلاف منافقوں کے کہ یہ لوگ شیطان جیسی فطرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، پہلے بد اعمالی کی ترغیب دیتے ہیں پھر یہ کہہ کر دور ہٹ جاتے ہیں، کہ اے گمراہو! اب ہم سے تمہارا کوئی سروکار نہیں تم جانو اور تمہارے اعمال، لوگو! قرآن سے نصیحت حاصل کرو، اگر یہ صحیفہ پہاڑ پر بھی نازل کیا جاتا تو وہ خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔

اس کے بعد سورہ ممتحنہ شروع ہوتی ہے، ارشاد ہوا کہ اب ہجرت کرنے کے بعد کفار مکہ سے خفیہ نامہ و پیغام جاری مت کرو، وہ دشمن دین ہیں ہرگز تمہارے دوست نہیں بن سکتے، کافر پر اعتبار کرنا غلط ہے کیونکہ وہ تمہارے دوبارہ کافر بن جانے میں دلچسپی رکھتے ہیں، پاک صاف مؤمن عورتیں اگر ہجرت کر کے آئیں تو بعد آزمائش ان کو اپنے معاشرے میں داخل کر لو، ورنہ

کفار کی طرف ان کو واپس کر دو۔

اس کے بعد سورہ صف شروع ہوتی ہے، ارشاد ہوا کہ اے مومنو! تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے۔ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ“ خدا اس بات سے سخت بیزار ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ خدا کے محبوب بندے تو وہ ہیں جو سیدھے پلانی دیوار کی طرح جم کر جہاد میں ثابت قدم رہتے ہیں، اس بشارت کا ذکر ہے جو عیسیٰؑ نے حضور ﷺ کے ظہور قدسی اور ان کے اسم مبارک احمد کے بارے میں دی تھی۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو یقین دلاتا ہے کہ کافر اللہ کے چراغ کی روشنی کو پھونکیں مار مار کر بجھا نہیں سکتے، مومنو! عنقریب تمہیں فتح نصیب ہوگی۔

اس کے بعد سورہ جمعہ شروع ہوتی ہے بڑے اہتمام کے ساتھ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے مومنو! جمعہ کی اذان سننے کے بعد نماز میں شامل ہونے کی جلدی کیا کرو، اور خرید و فروخت کا کام بند کر دیا کرو، نماز جمعہ سے فارغ ہو کر بے شک اپنی روزی کمانے میں مشغول ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔

اس کے بعد سورہ منافقون شروع ہوتی ہے، ارشاد ہوا کہ اللہ ہی نے تم سب کو پیدا فرمایا پھر تم سب میں کوئی کافر ہے کوئی مومن اور تمہاری عورتیں اور تمہاری اولاد میں بعض تمہارے دشمن ہیں سوان سے بچتے رہو، ہاں اگر وہ راہِ راست پر آجائیں تو انہیں معاف کر دو، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش کی چیز ہے۔

اس کے بعد سورہ طلاق کا آغاز ہوتا ہے، ارشاد ہوا کہ اگر عورتوں کو طلاق دینا ہو تو ان کی پاک حالت میں ان کو طلاق دو اور عدت کی مدت کا حساب رکھو، دورانِ عدت ان کا باہر نکلنا بے حیائی ہے، عدت کی مدت تین مہینہ ہیں اور حاملہ کی مدت وضع حمل ہے، حاملہ مطلقہ عورت کو وضع حمل تک خرچ دینا شوہر کے ذمہ ہے،۔

اس کے بعد سورہ تحریم شروع ہوتی ہے، ارشاد ہوا کہ اے نبی! بیویوں کی خاطر سے آپ اللہ کی

نعمتوں کو ترک نہ کریں، اور عہد کرنا قسم کے برابر ہے جس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا اسی طرح پیغمبروں کی بیویوں کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اگر پیغمبر کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی تو پیغمبر کی مدد کیلئے اللہ اور جبرئیل امین اور نیک کردار مسلمان موجود ہیں۔

### افطار کے وقت کی مشہور دعایہ ہے

اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُومْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ  
وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ فَتَقَبَّلْ مِنِّي -

اے اللہ میں نے تیرے ہی لئے روزہ رکھا،

اور تجھ ہی پر ایمان لایا اور تجھ ہی پر میں نے بھروسہ کیا،

اور تیرے رزق سے میں نے افطار کیا،

چنانچہ میری جانب سے اس کو قبول فرما لیجئے!

## پچیسویں تراویح

آج کا بیان ۲۹ ویں پارے کے متعلق ہے سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جو بے شمار نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں وہ اگر ہم واپس لے لیں تو پھر کون ہے جو یہ نعمتیں اس کو دوبارہ دلا دے۔ اسلئے اے لوگو! خدا ہی پر بھروسہ رکھو موت و حیات خدا کے قبضے میں ہے۔

”الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا“

پھر سورہ قلم میں فرمایا کہ اے نبی! آپ پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا ہے، ”وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ“۔ آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے اور یونس کی طرح ہم غصہ میں نہ پکاریئے۔ ”فَاَصْبِرْ وَلَا تَكُنْ كَصٰحِبِ الْاُحُوْتِ“ منکرین آخرت کیلئے عذاب کی وعید سنائی گئی۔

پھر سورہ حاققہ میں قیامت کی ہولناکی کی منظر کشی کی گئی۔ ”الْحٰقَّۃُ. مَا الْحٰقَّۃُ. وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْحٰقَّۃُ.“ منکرین کیلئے سخت سزا کی وعید متقیوں کیلئے جزاء خیر کی خوشخبری ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن برحق اور قابل یقین کتاب ہے۔ ”تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ“ یہ کتاب نہ کسی شاعر کا کلام ہے اور نہ کسی کا ہن کی خود ساختہ تصنیف مگر لوگ کم ہی ایمان لاتے ہیں پھر سورہ معارج شروع ہوتی ہے ارشاد فرمایا گیا، انسان بہت کم ہمت پیدا ہوا ہے تکلیف میں بے چین ہو جاتا ہے اور آسائش میں بخیل بن جاتا ہے۔ ”اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوًّا“، روز قیامت کا ذکر انسان کا ناشکر اپن بیان کیا گیا ہے جو لوگ مال جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وہ آخرت کے عذاب سے بے پروا نہ رہیں جبکہ دوزخ کی آگ ان کی کھال کو ادھیڑ ڈالے گی۔

اس کے بعد سورہ نوح میں ارشاد فرمایا گیا کہ نوحؑ نے کس طرح اپنی قوم کو ہدایت کی

لیکن بد اعمال لوگوں نے نہ نصیحت حاصل کی اور نہ نوحؑ کو جھٹلانے سے باز آئے۔ بالآخر انہوں نے قوم کے حق میں بد دعا کی اور لوگوں کو ایک سخت طوفان نے آلیا، تب بجز ایمان والوں کے پوری قوم غرق ہو گئی۔

پھر سورہ جن شروع ہوتی ہے، جنوں کی ایک جماعت کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے قرآن مجید کو سن کر کہا کہ قرآن تو بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے، جنات قرآن پر ایمان لے آئے اور توحید رب العالمین کا اقرار کر لیا ارشاد باری ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ ”عَالِمِ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا“ البتہ وہ جس پیغمبر کو چاہتا ہے غیب کی باتیں وحی کر دیتا ہے۔

اس کے بعد سورہ منزل شروع ہوتی ہے، حضور ﷺ کو مکملی والے کے لقب سے خطاب فرما کر ہدایت کی ہے کہ آپ نصف شب یا کم و بیش شب بیداری کیا کریں اور تلاوت قرآن ٹھہر ٹھہر کر کیا کریں، رات کی عبادت تزکیہ نفس کیلئے بڑا ذریعہ ہے اور یہ عبادت مقبول بارگاہ ہوتی ہے، نماز، زکوٰۃ، اور خیرات جاری رکھیں جو نیک عمل آگے بھیجا جائیگا وہی آخرت میں کام آئیگا۔

پھر سورہ مدثر میں حضور ﷺ کو مکملی والے کے لقب سے خطاب کر کے فرمایا گیا کہ اٹھو اور تبلیغ دین کا کام شروع کرو اپنے رب کی کبریائی اور بزرگی بیان کرو! اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے بچو! احسان کر کے اس کے صلہ کی خواہش نہ کرو! اور صبر سے کام لو! قرآن بے شک نصیحت کی کتاب ہے لیکن اس سے صرف وہ لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں جنہیں اللہ ہدایت پانے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔

اس کے بعد سورہ قیامہ کا آغاز ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی! جب آپ پر وحی کا نزول ہوتا ہے تو آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش میں دوہرانے میں مشغول نہ ہو جایا کریں بلکہ اس کو غور سے سنا کریں، قرآن کو آپ کے حافظہ میں محفوظ رکھنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔

اس کے بعد سورہ دھر شروع ہوتی ہے، ارشاد ہوا کہ ہم نے انسان کو تخلیق کر کے اس کو

اچھے برے کی تمیز دی، اب وہ خوب شکر گزار بندہ بنے یا ناشکرار ہے۔ کافروں کیلئے عذاب جہنم ہے اور نیکو کاروں کیلئے بہشت کا ابدی عیش۔

نیک لوگ باوجود خود بھی حاجت مند ہونے کے بھوکوں فقیروں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، یہ سب کچھ وہ اللہ کی رضا کیلئے کرتے ہیں، بدلے اور شکر کیلئے نہیں کرتے۔ اس کے بعد سورہٴ مرسلات میں ارشاد ہوا کہ قیامت برپا ہو کر رہے گی وہ فیصلہ کا دن ہوگا، جھٹلانے والے کب تک نہ بلا سکیں گے پس جو چاہے اللہ کا مطیع بنے اور جسے بدبختی نے گھیر لیا ہو وہ نافرمانی میں مبتلا رہے، ہر شخص اپنے اعمال کا صلہ پائے گا۔

افطار سے پہلے اس دعا کا ورد رکھنا چاہئے

اللَّهُمَّ يَا وَاسِعَ الْفَضْلِ اغْفِرْ لِي۔

اے وسیع فضل والے

میری مغفرت فرما دیجئے!

## چھبیسویں تراویح

آج کا بیان ۳۰ پارے کے پہلے نصف تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ سورہ بآ میں ارشاد باری ہے کہ منکرین اور تکذیب کرنے والوں کیلئے دوزخ کا عذاب تیار ہے، صور پھونکا جائیگا تو آسمان میں راستے بن جائینگے، جن میں سے لوگوں کا ہجوم گذر کر میدان حشر میں جمع ہوگا، اعمال نامے پیش ہونگے، اور جزاء و سزا کا فیصلہ ہوگا۔

سورہ نازعات میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن کی درازی کو دیکھ کر لوگ دنیا کی زندگی کے وقفہ کو صرف صبح و شام کی مدت خیال کریں گے، قیامت کی ہولناکی لوگوں کے دل ہلا دے گی، اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا اور پچھتائے گا کیونکہ دوزخ دیکھنے والوں کے سامنے نکال کر رکھ دی جائیگی۔ اے نبی! مالدار اور صاحب اقتدار لوگ بے پرواہ اور مغرور ہوتے ہیں اسلئے ان میں نصیحت حاصل کرنے کی صلاحیت کم ہی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے مقابلے میں غریب و مسکین لوگ جلد ہدایت پالیتے ہیں اس لئے اے نبی! آپ ڈرنے والوں کی طرف توجہ دیں کہ وہ پاکیزگی حاصل کریں۔

جب شور قیامت اٹھے گا اس دن ماں باپ بھائی بہن بیوی اور بیٹے کوئی کسی کے کام نہیں آئینگے ہر ایک اپنی فکر میں لگا ہوگا، نیکو کار خوش اور بدکار سیاہ ہونگے، آگے ارشاد باری ہے کہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے یہ شیطان مردود کا کلام نہیں۔ اے لوگو! پھر تم کدھر بھٹکے پھر رہے ہو۔

تمہیں سیدھی راہ اختیار کرنی چاہئے ورنہ قیامت کی ہولناکیوں سے تم نجات نہیں پاسکتے، کیا معلوم کہ قیامت کی ہولناکیاں کیا ہیں؟ سنو! اس دن آسمان پھٹ جائیگا، قبریں اکھیڑ دی جائیگی، تارے جھڑپڑیں گے، اور دریا اور سمندر سب ایک ہو جائینگے، ہر شخص کا کیا دھرا اس

کے سامنے آجائے گا، روز جزاء بہت سخت روز ہوگا، اس روز کوئی کسی کا بھلا نہیں کر سکے گا۔

پھر ارشاد ہوا سورہ مطففین میں کہ ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کیلئے سخت خرابی ہے، لوگو! اس دن سے ڈرو جب قیامت میں اٹھائے جاؤ گے، اور تمہارے اعمال کا دفتر لکھا ہوا تمہارے سامنے ہوگا، اور بد اعمالی کے نتیجے میں تم دوزخ میں داخل کئے جاؤ گے، اور اس دن مؤمن کافروں کی ہنسی اڑائیں گے، ارشاد ہوا کہ قیامت کے روز آسمان پھٹ جائیگا اور زمین چٹیل میدان ہو جائے گی، اور مردے زمین سے نکال کر باہر ڈال دئے جائیں گے، ہر طرف اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہوگی۔

نیک لوگوں کا حساب آسانی سے نمٹ جائیگا جبکہ بد کردار دوزخ میں داخل ہونگے، وہ دنیا کی زندگی میں سمجھتے تھے کہ خدا کی طرف لوٹ کر نہیں جائیں گے، ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے مؤمن مرد اور مؤمن عورتوں پر ظلم کیا اور توبہ بھی نہ کی وہ دوزخ کا عذاب پائیں گے، قرآن کو جھٹلانے والو! قرآن ایک عظیم الشان کتاب ہے اور لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ قرآن حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے، اے باطل پرستو! تم کو تھوڑی سی مہلت ہے بہت تھوڑی ارشاد ہوا کہ اے نبی! اپنے رب کی تسبیح کرو اور یقین کرو کہ ہم تمہیں اس طرح قرآن پڑھا دیں گے کہ تم اسے بھلا نہیں سکو گے، تم تبلیغ دین میں لگے رہو ہم تمہارے لئے آسانیاں بہم پہنچا دیں گے، ہماری کبریائی کے منکروں سے کہہ دو کہ ہماری تخلیقات کی طرف کیوں نہیں دیکھتے، ”أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. الخ“ ہم نے کیسا عجیب جانور اونٹ پیدا کیا اور آسمان کو کتنا بلند بنایا اور پہاڑوں کو کس طرح کھڑا کیا اور زمین کو ایک فرش کی طرح چھادیا یہ سب اس لئے کہ تمہارے کام آئے، سمجھدار ہو تو نصیحت پکڑو ضرور ہم تم سے حساب لینگے، پھر ارشاد ہوا کہ تم مال دولت کی لالچ میں ایسے گرفتار ہو کہ میراث کا مال تک غصب کر لیتے ہو، نہ یتیم کی مدد کرتے ہو نہ مسکین کی تمہارا پروردگار تمہاری تاک میں ہے ہم نے انسان کو جسمانی ہمت کے ساتھ ایسی صحیح سمجھ عطا فرمائی ہے کہ وہ بدی سے بچ سکے، اور پرہیزگاری اختیار کر سکے، تو جس نے زمین کو پاک رکھا اس نے



فلاح پائی اور جو نفس پروری میں لگا رہا وہ خسارہ میں رہا، ارشاد ہوا خیرات و صدقات اللہ کی رضا حاصل کرنے کیلئے دینا چاہئے نہ کہ احسان کرنے اور حصہ پانے کیلئے، بے کسوں کی دستگیری کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے نخیل و بے پرواہ لوگوں کیلئے آخرت کا عذاب ہے، اے نبی! ہم عنقریب آپ کو ایسی نعمت عطا فرمائیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے اگر عطاء نعمت میں دیر ہے تو اس سے آپ اس غلط فہمی میں نہ پڑیں کہ ہم نے آپ کو بھلا دیا ہے کیا ہم نے ہر کمزور حالت میں آپ کی دستگیری نہیں فرمائی ہے، ہم نے آپ کو روشن ضمیری عطا فرمائی، آپ کی پریشانیاں دور کی اور آپ کا ذکر بلند کیا، ”وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ“ مشکلات کے ساتھ آسانیاں بھی ہوتی ہیں، آپ گھبرائیں نہیں اور اپنے رب کی طرف متوجہ رہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ  
 فِي الْوَيْتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ -  
 (مشکوٰۃ شریف)

فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ  
 شب قدر کو رمضان المبارک کے اخیر عشرہ  
 کی طاق راتوں میں تلاش کرو!

## ستائیسویں تراویح

آج کا بیان تراویح سورہٴ بینہ سے آخر قرآن پاک کی تلاوت پر مشتمل ہے، نیکوکاروں سے اللہ خوش اور اللہ سے نیکوکار خوش وہ تمام مخلوق سے بہتر ہے اور رہ گئے بد کردار تو وہ بدترین خلاق ہیں، روز حساب کو ہم ایسا انصاف کریں گے کہ نہ کسی کی ذرہ بھر نیکی ضائع ہوگی اور نہ کسی کی ذرہ بھر نیکی چھپی رہے گی دراصل انسان ناشکر ہے، اور وہ اپنی اس کمزوری سے واقف بھی ہے مگر مال کی محبت اسے بے راہ رکھتی ہے، لوگو! قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرو! تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ کیسا عذاب ہے۔

دولت کی ہوس نے تم کو اللہ سے غافل کر دیا ہے قیامت میں تم سے ضرور اس کی باز پرس ہوگی اور تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ بجز نیک لوگوں کے، انسان عام طور پر خسارے میں رہتا ہے، ارشاد ہوا کہ چغلخو راورنجیل دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کافر بادشاہ ابرہہ نے خانہٴ کعبہ پر ہاتھیوں سے حملہ کیا تو اللہ نے اپنے پرندوں کے ذریعہ سے کنکریاں برسائیں اس کے تمام لاؤ لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔

اے اہل قریش! اب جب کہ ہم تمہارے راستے پر امن بنا دیئے تو تمہیں شکر گزار ہو کر ہمارا فرمانبردار بن جانا چاہئے۔

ارشاد ہوا کہ یتیموں اور مسکینوں کو جھڑکنے والے ریاء کا رنجیل بد بخت ہیں کیونکہ وہ نماز کی غرض و غایت سے غافل رہتے ہیں۔

اے محمد! آپ دشمنوں کے طعنہ کا اثر نہ لیں، دشمن بے اولاد رہ کر خود گنہگار ہو جائیں گے، آپ نماز ادا کریں اور قربانی دیں حوض کوثر آپ کیلئے ہمارا عطیہ ہے۔

اس کے بعد سورہٴ کافرون میں اللہ نے کافر اور مؤمن کی راہیں الگ الگ متعین

فرمادیں، تاکہ ایک دوسرے سے بیگانہ اور متمیز رہیں۔

فتح مکہ کے بعد فروغ دین اسلام کا ذکر فرما کر حمد رب جلیل کی تلقین فرمائی اور ابولہب اور اسکی بیوی پر اللہ نے لعنت فرمائی، دونوں حضور ﷺ کو بہت ستاتے تھے،۔

اس کے سورہ اخلاص میں ارشاد ہوا کہ اعلان کر دو کہ اللہ بس ایک ہے اور بے نیاز ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کے کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ساجھی اور شریک ہے۔

سورہ فلق میں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنے کا بیان حضور ﷺ پر جادو ہونے ذکر، اور سورہ ناس میں دلوں کے وسوسوں اور شیطان کے پھسلانے سے پناہ مانگنے کا بیان ہے۔

شب قدر میں کثرت کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ-

اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے،

معافی کو پسند کرتا ہے، سو تو مجھ کو معاف فرما دے۔

# منازل قرآن

## سات منزلیں

تعداد سورت	سورتوں کے نام		تلاوت نمبر سورت		نمبر منزل
	تا	از	تا	از	
۴	نساء	فاتحہ	۴	۱	۱
۵	توبہ	مائدہ	۹	۵	۲
۷	نحل	یونس	۱۶	۱۰	۳
۹	فرقان	بنی اسرائیل	۲۵	۱۷	۴
۱۱	یس	شعراء	۳۶	۲۶	۵
۱۳	حجرات	صافات	۴۹	۳۷	۶
۶۵	الناس	ق	۱۱۴	۵۰	۷

## اعراب

۵۳۲۴۲	فتحہ (زبر)
۳۹۵۸۲	کسرہ (زیر)
۸۸۰۴	ضمہ (پیش)
۱۷۷۱	د
۱۴۵۲	تشدید (شد)
۱۰۵۶۸۴	نقطہ

# حروف ہجا

جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے

نمبر شمار	بناوٹ	تلفظ	قرآن میں کتنی بار استعمال ہوا
۱	ا	الف	۲۸۸۷۲
۲	ب	باء	۱۱۲۲۸
۳	ت	تاء	۱۱۹۹
۴	ث	ثاء	۱۲۷۶
۵	ج	جیم	۳۲۷۳
۶	ح	حاء	۹۷۳
۷	خ	حاء	۲۴۱۶
۸	د	دال	۵۶۴۲
۹	ذ	ذال	۴۶۹۷
۱۰	ر	راء	۱۱۷۹۳
۱۱	ز	زاء	۱۵۹۰
۱۲	س	سین	۵۸۹۱
۱۳	ش	شین	۲۲۵۳
۱۴	ص	صاد	۲۰۱۳
۱۵	ض	ضاد	۱۶۰۷

۱۲۷۴	طاء	ط	۱۶
۸۴۲	ظاء	ظ	۱۷
۹۲۲۰۰	عين	ع	۱۸
۲۳۰۸	غین	غ	۱۹
۸۴۹۹	فاء	ف	۲۰
۶۸۱۳	قاف	ق	۲۱
۹۵۲۲	کاف	ک	۲۲
۳۳۳۲	لام	ل	۲۳
۲۶۵۳۵	میم	م	۲۴
۲۶۵۶۰	نون	ن	۲۵
۲۵۵۳۶	واو	و	۲۶
۱۹۰۷۰	هاء	ه	۲۷
۳۷۲۰	لام الف	لا	۲۸
۴۱۱۵	ہمزہ	ء	۲۹
۲۵۹۱۹	یاء	ی اے	۳۰
۳۶۱۱۶۸	کل حروف		



## تحفہ تراویح اساطین امت کی نظر میں

عزیزم مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحی نے جو کہ جامعہ ہذا کے لائق فائق اور فعال استاذ ہیں، انھوں نے ایک البیلا اور انوکھا کام کیا، جس کی بے انتہاء ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، اور میری دیرینہ تمنا بھی تھی۔ مولانا غلام محمد وستانوی، رئیس الجامعہ اشاعت العلوم اکل کوآ۔ مقام مسرت ہے کہ جامعہ کے استاذ تفسیر و حدیث وفقہ مولانا عبدالرحیم فلاحی نے اس سلسلہ میں نیا قدم اٹھایا ہے، موصوف نے روزانہ کے خلاصہ کو قلم بند کر کے محفوظ کر لیا ہے مولانا سلیمان صاحب سہمی شیخ الحدیث جامعہ اکل کوآ۔

یہ کتاب معلومات افزاء، تربیتی پہلو کی حامل اور عوام میں قرآن فہمی کا ذوق و شوق پیدا کرنے، غور و خوض پر آمادہ کرنے کا بیش بہا اور انمول تحفہ ہے۔

مفتی عبداللہ صاحب مظاہری ناظم جامعہ مظہر سعادت ہانسوٹ۔

بڑی ہی مختصر اور جامع انداز پر ساری متعلق باتیں سمیٹ لی ہیں، ہر سورت میں بیان کردہ مضامین اور مسائل کا ایسا عطر اور خلاصہ نکال کر رکھ دیا کہ بہت تھوڑے سے وقت میں سامع کے سامنے تراویح میں سنی گئی تلاوت کا مفہوم اور مطلب واضح ہو کر آجائے۔

قاری ابوالحسن صاحب اعظمی دارالعلوم دیوبند۔

عزیز محترم نے لوگوں کے ذوق کو سامنے رکھ کر روزانہ پڑھے جانے والے سو پارہ کی بہت عمدہ عام فہم تشریح کر دی ہے۔ مولانا ایوب صاحب سورتی ناظم مجلس دعوت الحق انگلینڈ۔ جس میں اس حصہ میں آنے والے احکام و قصص کی طرف بھی اشارہ ہے اور تذکیری و دعوتی مضمون کو بھی نمایاں کیا گیا ہے، زبان آسان و عام فہم ہے اختصار ملحوظ ہے۔

مولانا خالد سیف اللہ شیخ الحدیث سبیل السلام حیدرآباد۔

کتاب کی زبان رواں سلیس با محاورہ اور علمی ہے جو تقریباً ہر خواندہ و ناخواندہ سمجھ سکتا ہے یہ کتاب سب کیلئے ایک جامع اور مفید تحفہ ہے یہ کتاب بجا طور پر اس کی مستحق ہے کہ محبت کے ہاتھوں سے لی جائے، اور عقیدت کی نگاہوں سے پڑھی جائے۔

مولانا زبیر صاحب اعظمی ایولہ ضلع ناسک۔

